

امتاب

ان ماوں کے نام جو اپنے بچوں کی

بہترین پروردش کرنا چاہتی ہیں۔

تسلیمِ افضل

تعارف

بچپن کی عادت ساری عمر ساتھ رہتی ہے۔ بچپن میں دینے جانے والے کھانے بچوں کو تو ساری عمر اچھے لگتے ہیں۔ نشاستہ دار غذا میں، سفید، چینی، چھنا ہوا آٹا اور مشینوں پر زیادہ صاف کردہ چیزیں، وہ انسن کے بغیر کھانے بچوں کو موٹا کر کے موٹا پے اور دل کی بیماریوں سے محفوظ رکھتی ہے۔ کمرشل بے بی فوڈ کے ڈبوں کے لیبل کو اچھی طرح دیکھیں کہ کس طرح ان میں بندگوشت اور سبزیاں پروڈکٹ کی گئی ہیں۔

بندڈبوں میں بے بی فوڈ کے اندر نمک کی زیادتی ماوں کو تو خوش کر سکتی ہے مگر بچوں کے لیے فائدہ مند نہیں۔ امریکہ کے تین بڑے مینپوچر زنے اپنی مصنوعات میں اب نمک ڈالنا ترک کر دیا ہے۔ ڈاکٹروں کی موجودہ ریسرچ نے انہیں بچوں کے کھوار کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ہم بھی بہت زیادہ موٹی یا ان فٹ بچوں کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ ان کے موٹا پے کو سادہ اور قدرتی غذا ایتیت سے دور کیا جاسکتا ہے۔ اس پوائنٹ پر میں محسوس کرتی ہوں کہ کمرشل بے بی فوڈ ناگہانی حالات میں ماوں کے لئے مفید ثابت ہوتے ہیں مگر عام حالات میں تازہ پکے ہوئے اور قدرتی کھانوں سے ان کا مقابلہ نہ کریں۔

اس کتاب میں آپ کو بچوں کے کھانے پکانے سے متعارف کرایا جا رہا ہے۔ یہ ایک بہلکی چلکی سی کوشش ہے۔ یہ کھانے گھر پر تیار کردہ وہی، سینک اور آئس کریم وغیرہ سے تیار کئے جاسکتے ہیں۔ آئینے اپنے بچوں کو صحیت مند بنائیں اور دیکھیں

کہ کوئی چیزوں سے بچوں کی نشوونما کی ابتداء کی جائے۔
مجھے امید ہے آپ میری اس کاوش کے بارے میں اپنی آراء سے ضرور آگاہ
فرمائیں گے۔

تینیم افضل

میرے پاس وقت نہیں

بچے کے لئے اپنے ہاتھوں سے کھانا تیار کرنا آپ کی سوچ سے کہیں زیادہ آسان ہے۔ اس میں زیادہ وقت بھی نہیں لگتا۔ بچے کوئی بسیار خورتو ہوتے نہیں۔ انہیں ضایافتوں کی ضرورت نہیں بلکہ انہیں تو تازہ قدرتی اور سادہ خوراک کی ضرورت ہے۔ جس میں کم سے کم چیزیں ڈالی گئی ہوں۔ بنیادی طور پر ہر بچہ وہی کھائے گا جو خاندان کے دوسرے افراد کھاتے ہیں الہذا بچوں کی خوراک کے لئے کوئی خاص فاتح چیز کی ضرورت نہیں۔ بچے کے مینوں کو فیملی سے مطابقت دے کر اپنا پیسہ اور وقت بچائیں۔

قدرتی بات ہے کہ آپ کے پاس بچے کے لیے ہر روز نئی نئی چیزیں بنانے کا وقت نہیں ہے۔ اگرچہ بالکل تازہ (پکانے کے فوراً بعد) خوراک بہترین خدا ہے تاہم ہر روز ایسا کرنا ناممکن ہے۔ ڈبوں میں بند کمرشل بے بی فوڈ پر انحصار کرنے سے کہیں بہتر ہے کہ آپ مختلف کھانے مثلاً گوشت، سبزیاں، اسٹوفروٹ، سوپ اور شوربے زیادہ مقدار میں تیار کر کے فریز کر لیں اور جھوڑ اجھوڑ روزانہ استعمال کریں۔ بے بی فوڈ فریز کرنے کا ایک اچھا طریقہ یہ ہے کہ آنس کیوب ٹرے استعمال کریں۔ سالن، سوپ یا فروٹ آنس کیوب ٹرے میں انڈیل کر فریز کر لیں اور بعد میں استعمال کے لئے انہیں فریز ریگ میں ڈال لیں۔ مکمل کچے ہونے کھانے، سبزیوں کا سالن، وہی، فروٹ یا سوپ وغیرہ کو پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے لفافوں میں بھی فریز کیا جاسکتا ہے۔ یہ لفافے خاص طور پر ایک

ایک دن کی خوراک یا سفر کے لئے اچھے ثابت ہوتے ہیں۔ بچوں کو اپنی خوراک کے مپر پچھے سے کوئی غرض نہیں ہوتی۔ گوشت اور سبزی کا سالم روم مپر پچھے میں ایسا ہی ذائقہ دیتا ہے جیسے اسے گرم کیا گیا ہو یعنی اور گوشت کا سالم فرنچ میں رکھنا چاہئے کیونکہ ان کھانوں پر بیکٹیریا بہت جلد پہنچتے ہیں۔

پچھن میں اپنا زیادہ تر وقت لگا کر ایک دم بہت سی چیزیں پکالیں۔ وہی اور انڈوں جیسی قدرتی خوراک کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ گھر پر وہی تیار کریں، یہ آسان اور ستاپرستا ہے۔ فروٹ اور وہی سے کھانا تیار کر کے گھننوں کے بل چلنے والے اور دوسرے بچوں کو بطور لنج دیا جاسکتا ہے۔ ٹن کا ڈبہ کھونے اور پھر اسے گرم کرنے کی نسبت وہی فروٹ میں مکس کرنا زیادہ آسان ہے۔ انڈے بہت زیادہ وقت بچاتے ہیں یہ ایک منٹ میں فروٹ جوں یا دودھ میں پھینٹ کر ملائے جاسکتے ہیں۔

شروع شروع میں آپ کو بچے کی خوراک تیار کرنے میں محنت کرنا پڑے گی کیونکہ آپ کو سوچنا پڑے گا کہ بچے کے لئے کیا بنانا ہے مگر ایک دفعہ آپ منظم ہو جائیں تو پھر بچے کی صحت اور تدرستی کے لئے آپ کو بہت کم فالتو وقت درکار ہو گا اور آپ اپنے آپ کو ذمہ دار مان تصور کریں گی۔ اور آپ کو دلی تسلیم بھی ہو گی۔

بچے کی خوراک تیار اور سٹور کرنے کا بنیادی سامان

بچے کی خوراک جلد اور آسانی سے تیار کرنے کے لئے آپ کے پاس پہلے ہی

بہت سا سامان موجود ہوگا۔ مثلاً ساس پین چھلنی، کدو کش، ماپ کے لئے کپ اور چینچ، چوڑے پھل کا چاقو، یہ چیزیں تقریباً ہر کچن میں پائی جاتی ہیں۔ تاہم آپ کو کچھ فالت چیزیں خریدنا پڑیں گی جو اس وقت آپ کے پاس نہیں لیکن یہ بچے کی خوراک تیار کرنے میں آپ کی سہولت اور آسانی کا باعث ہوں گی۔ ان میں سب سے پہلے الیکٹرک بلندر ہے۔ میرے لئے تو کچن میں یہ خاصی کارآمد چیز ہے۔ اگرچہ یہ مہنگی چیز ہے مگر یہ ہمیشہ کے لئے آپ کا بہت سا وقت اور پیسہ بچائے گی۔ یہ نہ صرف بچے کی خوراک تیار کرنے کیلئے مفید ہے بلکہ ساری فیملی کا کھانا تیار کرنے کے لئے خاصی فائدہ بخش چیز ہے۔ بلندر ہر ایک کو بہتر غذا ہمیت فراہم کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سوپ، ہش رو بات، ہفروٹ ڈریز ریس، قدرتی غذاوں کے تازہ استعمال کیلئے اس سے با آسانی تیار کیا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ اگر آپ اسے خرید لیں تو پھر آپ کو اپنی آسانی کے لئے ڈبوں میں بند خوراک کی قطعاً ضرورت پیش نہ آئے گی۔

بلندر کا استعمال غم البدل مولی ہے۔ اس سے ہم چوڑے وقت میں بہت سی چیزوں کا کدو کش کر سکتے ہیں۔ انہیں چھان سکتے ہیں، اگر اسے بہت سی انٹر چینچ کرنے والی کدو کش ڈسک کے ساتھ خرید لیا جائے تو عام کھانے تیار کرنے اور بے بنی فوڈ بنانے میں بہت سے فوائد دے سکتا ہے۔

کچن کی ایک اور نہایت مفید چیز سیمیر باسکٹ ہے۔ اس سے آپ کے بچے کی خوراک کے قدرتی و نامن اور نمکیات محفوظ رکھیں گے۔ سبزیاں پکانے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ دھات کی باسکٹ میں انہیں سٹیم کیا جائے۔ باسکٹ کو مضبوطی سے

بندسas پین کے اندر رکھیں، جس میں تیزی سے پانی ابل رہا ہو۔ سبزیوں کو اس طرح پکانے سے پانی میں حل ہونے والے اجزا ضائع نہیں ہوتے۔ مختلف سائز کے ساس پین فٹ کرنے والی سیمیر بائسکٹ ہارڈ ویرسٹور سے با آسانی مل جاتی ہے۔ اس کے استعمال سے سبزی کی خوشبو اور رنگ برقرار رہتا ہے۔ سبزیاں پکانے کے بعد ان کا بچا کھچا پانی بچے کے لیے دوسرا کھانا اور سوپ بنانے کے کام آ سکتا ہے سادہ پانی دینے کی بجائے اسے بچے کے فیدر میں ڈال کر پایا جا سکتا ہے۔

باریک چھانی (ناکلوں کی ہو تو بہتر ہے) دودھ اور فروٹ جوں کو چھان کر بوٹل یا کپ میں ڈالنے کے لئے بہت اہم چیز ہے۔ گاجر اور آلو کو چھلنے کی بجائے ونجھیل برش سے رگڑ لیں۔ یہ کام نیل برش سے بھی لیا جا سکتا ہے۔ ان چھلے فروٹ اور سبزیوں کو اچھی طرح صاف کرنے کے لئے اسے استعمال میں لا کیں۔ الیکٹریک ایکٹریک ٹریمنگ گالٹا ہے اور یہ ویسے بھی فاتح خرچ کرنے والی بات ہے لیکن تازہ اور نج جوں نکالنے کے لئے ہینڈ جوسر بہت ضروری ہے۔

آپ کو بے بی خواراک میں گوشت، سبزیاں اور فروٹ کو فریز کرنے کے لئے آنس کیوب ٹرے اور پلاسٹک فریز ریگ کی ضرورت پیش آئے گی۔ چھوٹے اور بڑے سائز کے ڈھکن والے پلاسٹک اور شیشے کے کنٹیز بھی فریز کے عالم یا فریزر کے حصوں میں رکھنے کیلئے لیں۔ تقریباً چھ عدد کنٹیز خرید لیں، خواراک کوتازہ رکھنے یا بچے ہوئے کھانوں کو محفوظ کرنے کے لئے یہ بہت مفید ہیں۔ پلاسٹک کے تھیلے کئی ہوئی سبزیاں رکھنے کے لئے مفید ہیں مگر دھیان رکھیں کہ لفافوں میں سوراخ

نہ ہوں۔

پہلے ٹھوں۔۔۔ فروٹ اور فروٹ جوں

آپ خود بھی بچے کو ٹھوس غذاوں سے متعارف کرنے کے لئے، اس کا وقت یا عمر بخوبی جانتے ہوں گے۔ بے بی ہیلتھینڈر میں سسٹر یا ڈاکٹر بھی آپ کو بتا سکتی ہیں کہ بچے کو کیا، کب اور کتنی خوراک دی جائے۔ میرے خیال میں یہ غذا کمیں با آسانی دی جاسکتی ہیں۔

۔ پکا اور پھینٹا ہوا کیلا

۲- باریک کٹا ہوا دم پختہ سب

۳-وہی

میٹھے آلو اور کدو

۱۵۰

۲۔ اندے کی زردی۔

یہ غذا چھ ماہ کے بچے سے شروع کرنی چاہئے کیونکہ ان میں بہت زیادہ فولاد پایا جاتا ہے چھ ماہ تک کی عمر میں بچوں کے اندر کافی مقدار میں فولاد پایا جاتا ہے اور اس کے بعد ان کی خوراک میں زیادہ فولاد دوالی غذاؤں کی ضرورت ہوتی ہے۔

دوسری سنبھلیاں۔

۸-سفید گوشت - چکن، مچھلی

۹۔ اور نج جوس۔۔۔۔۔ مغز اور کلیجنی

۱۰۔ سرخ گوشت۔۔۔۔۔ گائے، بھیڑ، خرگوش کا گوشت

ٹھوس غذا کی حیثیت سے گوشت آپ کے بچے کے لئے لا جواب چیز ہے۔ آپ شاید تمیں سے پانچ بھتے کی عمر سے اپنے بچے کو اور نج جوس دیتے چلے آ رہے ہیں لہذا اب ٹھوس غذا کے لئے کونسا فروٹ بہتر ہو گا۔ فروٹ کا انتخاب ہمیشہ احتیاط سے کرویں، ہمیشہ موسمی پھل خریدیں۔ یہ اچھی طرح پکا ہوا ہونا چاہئے۔ نئی خوراک کی حیثیت سے فروٹ کا آہستہ آہستہ متعارف کرائیں۔ ایک وقت میں صرف ایک پھل دیں۔ پہلے بچے کو ذائقہ چکھا جائیں اور بعد میں آہستہ آہستہ اس کی مقدار بڑھاتے جائیں۔ یہ دیکھ لیں کہ آپ کا بچہ یہ پھل پسند کرتا ہے۔ کہیں وہ ناپسند یہ گی کا اظہار کرتے ہوئے اکتا تو نہیں جاتا۔

سیب اور کیلے کے ساتھ ساتھ دوسرے موسمی پھل بھی دینے کی کوشش کریں مگر احتیاط سے۔ بیچ اور گھنیلوں والے پھل چھوٹے بچے سے با آسانی نہیں کھائے جاسکتے، جب کہ کھٹے فروٹ چھوٹے بچوں کو دینے جائیں تو عموماً الرجی کا سبب بنتے ہیں لہذا احتیاط بر تیں۔ ابتداء میں ایک چھیج اور نج جوس میں آٹھ چھیج پانی ملا کر دیں۔ آہستہ آہستہ جوس کی مقدار بڑھاتے جائیں، وقت کے ساتھ پانی کی مقدار کم کر دیں۔ ڈبے کے پھل دینے سے گریز کریں کیونکہ اس میں زیادہ مقدار میں شوگر ڈالی جاتی ہے۔ تاہم بالکل کوئی پھل نہ دینے کی نسبت ڈبوں میں بند خشک اور چھٹے ہوئے پھل بہتر ہیں۔

جب تازہ پھل نایاب ہوں تو چھ ماہ کے بچے کے لئے خشک آلو بختار اور خوبانی

شیشے کے جار میں ڈال کر پانی میں ڈبو دیں اور رات بھر بھگوئے رکھیں۔ اگلے دن انہیں پا کر اس کی چٹنی تیار کر لیں۔ پھل لا جواب فنگر فوڑ ہیں۔ کیلا چھیل کر بچے کے ہاتھ میں دے دیں۔ اس کے علاوہ ناشپاتی یا سیب کے نکڑے انہیں پکڑا دیں۔ چھوٹے بچوں کو سخت پھل دینے سے گریز کریں کیونکہ یہ ان کے لئے مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔

تازہ فروٹ، جوں، دودھ، شہد اور پنیر سے بننے ہوئے مشروبات ساری فیملی کے لئے مزیدار ہوتے ہیں۔ ابلے ہونے پانی میں بے بی کے لئے جوں کے چجع سے لے کر دوسرا بچلوں اور بڑے بچوں کے لئے دہی اور فروٹ کے مشروبات صحت افزائش چھوڑتے ہیں۔ بازار سے آنس کریم خریدنے کے بجائے، اسے گھر پر تیار کریں اور اس کے اوپر فروٹ کے سکلنے سجا کر اس کی غذائیت اور لذت کو بڑھائیں۔

کہلے

کیلا لا جواب ٹھوس غذا ہے مگر وہیان رہے کہ یہ اچھی طرح پکا ہوا اور چتری والا ہو۔ کپکے ہونے کیلے بچہ آسانی سے ہضم کر لیتا ہے۔ یہ وہ مزہ اور معدنیات سے بھر پور ہوتے ہیں۔ بچے ان کی قدرتی مٹھاس کو پسند کرتے ہیں۔ ان میں چینی یا شہد ملانے کی مطلقاً ضرورت نہیں ہوتی۔ چار ماہ کے بچے کے لئے پکا ہوا کیلا چھیل کر پھینٹ لیں۔ ابتداء میں پتلاؤ کرنے کے لئے اس میں دودھ یا تمہوار اسما

پانی ملادیں۔ جب آپ کا بچہ کیلا خود کھانے لگے تو اسے دوسری چیزوں میں لکھ کر
کے دیں۔

دہی کیا

بچا سے بہت پسند کرتا ہے۔ کیلئے پھینٹ کر سادہ دہی میں لکھ کر لیں۔ ہر عمر کے بچے اس کو پسند کرتے ہیں۔

سندھ اور کیسا

تازہ سب کا کدوکش یا اس کے باریک قٹلے کاٹ کر پھینے ہوئے کیلے میں ملا دیں۔ کیلے کو کسی بھی موسمی پھل میں مکس کیا جاسکتا ہے۔ اسے خربوزہ اور اورنج جوں میں بھی ملایا جاسکتا ہے۔

ٹڈا اور کیلہ

کیا اور دیسی پنیر

دیسی پنیر آ دھا کپ
چار چھج تازہ اور نج جوں

پھینٹا ہوا کیا آ دھا کپ
ایک چھج شہد

ساری چیزوں کو اچھی طرح مکس کے فوراً لکھا دیں۔ پنیر کے ساتھ تازہ فروٹ
مکس کر کے دینے کی کوشش کریں۔ اس میں آپ آم اور انناس کا گودا ملا کر دے
سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ کدو کش کیا ہوا پھینٹا ہوا خربوزے کا آمیزہ بھی بہت
مزیدار گلتا ہے۔

دیسی پنیر

دو دھو چھ کپ
دو عدد یموں کا رس

چکنی بھرنمک
سادہ دی چھچج

دو دھو کو بال لیں اور چوہے سے اتار کر اس میں دھی، یموں کا رس اور نمک ملا
کر یک جان کر لیں اس آمیزے کو پانچ منٹ پڑا رہنے دیں۔ ممل کے کپڑے پر
پنیر کی دو ہری تہہ لگا دیں۔ اس پر دو دھو کا آمیزہ انڈیل کر خشک ہونے دیں۔ اس کو
کپڑے کے اندر لپیٹ کر سارا پانی نچوڑ لیں۔ پنیر کو کسی وزنی چیز سے دبادیں اور
ساری رات یونہی پڑا رہنے دیں یہاں تک کہ سارا آمیزہ سخت ہو جائے۔

فروٹ کے ساتھ پنیر کا استعمال ایک قدرتی غذا ہے اسے سبزیوں کے ساتھ
میں بھی ملایا جاستا ہے۔ چھ ماہ کے بچے کے لئے یہ بہترین لٹخ ہے۔

سیب

ابتداء ہی میں سیب بچوں کی مرغوب غذا ہوتی ہے۔ بڑی عمر تک بچے اور بڑے سب اسے کھانا پسند کرتے ہیں۔

ماہ ۲۳

سیب کا جوں

سیب چھوٹے عدد
سیب و ہوکر کاٹ لیں۔ انہیں چھلینے اور بیج نکالنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ پندرہ بیس منٹ تک چھوٹے کپ پانی میں پکائیں۔ چھان کر کنٹیز میں انڈیل لیں۔

ماہ ۲۴

باریک کٹے ہوئے سیب یا ناشپاتی

آپ جب بچے کو سیب سے متعارف کرائیں تو کپے ہوئے سیب کا انتخاب کریں۔ سرخ یا گولڈن سیب مزیدار ہوتے ہیں۔ بچے سیب کے نکلے کو مسل کر بچے کے منہ میں ڈالیں۔ ابتداء میں بچے کا چوتھا حصہ دیں۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ مقدار بڑھاتے چلیں جائیں۔ جب آپ کا بچہ کرسی پر بیٹھنے لگ جائے تو سیب کا کدوکش کر کے اسے دیں۔

ماہ ۲۵

دم پختہ سیب

سیب کی کوئی بھی قسم دم پختہ کی جاسکتی ہے۔ سیب کو دھو کر اس کے پیچ نکال لیں اور جھلکے اتار کر قتلے بنالیں۔ ساس پین میں تھوڑا سا پانی ڈال کر سیب کے نکلاۓ اس میں ڈال دیں۔ دس منٹ تک پکائیں یہاں تک کہ سیب نرم ہو جائیں۔ مولی کے ذریعے یا بلینڈر میں اس کا گودا بنالیں۔ بڑے بچوں کے لئے کانتے سے باریک کر لیں۔ اس میں چینی نہ ملائیں۔ اگر سیب کھٹے ہیں پکانے کے بعد ان میں تھوڑا سا شہد ملا لیں۔ اسے دہی، کشڑ، دیسی پنیر یا پھلوں اور بزریوں کے گودے کے ساتھ بھی دیا جاسکتا ہے۔

سیب کا گودا، کچا

گھر پر تیار کردہ سیب کا جوں کچے یا پکے سیب چھیل کر پیچ نکال دیں۔ سیب کے نکلاۓ کر لیں۔ جوں سمیت بلینڈر میں ڈال دیں اور یک جان ہونے تک بلینڈ کریں۔

کچے یا پکے سیبوں کا گودا تیار کرنے کا یہ اچھا خیال ہے۔ انہیں زیادہ مقدار میں تیار کر کے مصروفیت کے دوران استعمال کرنے کے لئے فریز کر لیں۔

۱۲ ماہ

پکا ہوا سیب

مکھن تھوڑا سا

سرخ سیب ایک عدد

شہد ایک چیج

دار چینی اور جانفل بڑے بچوں کیلئے
سیب وہو کر خشک کر لیں۔ چھری یا چافو سے ثابت سیب کے اندر سوراخ کر
کے چیز نکال لیں۔ اس خالی جگہ کو شہد، مکھن اور مصالح سے بھر دیں۔ سیب کے
چھلکے کو گول دائرے کی شکل میں درمیان سے اتار لیں۔ اسے ایک ڈش میں جھوڑ اسا
پانی ڈال کر کھدیں تاکہ یہ ڈش کے ساتھ چمنے سے محفوظ رہے۔ تیس منٹ یا نرم
ہونے تک موڈ ریٹ اون میں پکائیں۔

مشروبات

انناس کا مزہ

ایک بیس تازہ انناس
چھونا یا آدھا کیلا
ایک کپ اور نج جوس
شہد حسب ذائقہ
بلینڈ کر کے بوتلوں اور کپوں میں چھان کر رکھ لیں وقہ و قہ سے بچوں کو
استعمال کرائیں۔

۱۵ ماہ

گاجر کا جوس

گاجر آدھا کلو
آدھا کپ ملک پاؤڈر
پانی چار کپ
گاجروں کو دھو کر انہیں باریک نکڑوں میں کاٹ لیں۔ ساری چیزوں کو ساس
پین میں ڈال کر مضبوطی سے ڈھلن دے دیں۔ اور اب ایں ایک گھنٹے تک پکنے
دیں۔ ایرٹائم ڈبے میں ڈال کر فریج میں ٹھہنڈا کر لیں یا فریز کر لیں۔

۲۶ ماہ

ایپل لیمن جوس

لیمن جوس ۲ چھوٹے چچ

ایپل جوس ایک کپ

شہد کے ۲ چھوٹے چیज

آدھاتا زہ سیب کدو کش کیا ہوا

بلینڈ کر کے چھوٹے بچے کے لئے بولیا کپ میں چھان لیں۔

اپل شیک

ماہ ۶

ایک کپ اپل جوس میں کوئی سامونی پھل بلینڈ کر لیں۔ جی چاہے تو مزہ دو بالا کرنے کیلئے تھوڑا سا شہد ملا لیں۔ کھانے کا ایک چیج ملک پاؤڈر شامل کرنے سے اپل شیک میں پروٹین اور ورائٹی کا اضافہ کرتا ہے۔

کارب ملک

ماہ ۸

ایک کپ دودھ کارب پاؤڈر ۲ چائے کے چیج انہیں بلینڈ کر لیں۔ کارب ہیلتھ فوڈسٹور سے مل جاتا ہے۔ یہ ہر عمر کے لئے چاکیت کا لاجواب نعم البدل ہے۔ یہ قدرتی طور پر میٹھا، بلکہ چاکیت ہی کی طرح کا ہوتا ہے۔ لیکن اس میں بہت زیادہ کیلشیم، پونا شیم اور فاسفورس پائے جاتے ہیں۔

کیلا

ماہ ۸

ایک کپ دودھ

ایک اندا

ایک عد پکا ہوا کیلا

ایک چائے کا چیج شہد

مصروفیت یا پریشانی کے دنوں میں جب آپ کوئی کام نہ کر سکیں تو بلینڈ کر کے بوتل یا کپ میں چھان لیں۔ ایک وقت کا مکمل کھانا ہے۔ جو بچے ابھی پورا اندا نہیں کھاتے ان کے لئے صرف کچھی زردی ہی ملائیں۔

فروٹ ملک شیک

ایک کپ دودھ میں کوئی سا پھل ملائیں۔ سبب، ناشپاتی، آڑو، انناس وغیرہ۔

۸ ماہ

دہی فروٹ شیک

ایک کپ سادہ دہی
ایک عدد پکا ہوا کیلا
ایک کپ اور نج جوس
بلینڈ کر کے بچے کی بوتل میں چھان لیں۔

۹ ماہ

بانانا سمونچی

تازہ اور نج جوس ڈیڑھ کپ
ایک کیلا (برٹے سائز کا)
شہد ایک چچ
بلینڈ کر کے بچے کی بوتل میں انڈیل دیں۔ گھر کے دوسرے افراد کو بھی گلاسون میں ڈال کر پیش کیا جا سکتا ہے۔ تھوڑا سا پودینے کاست ڈال کر اور بھی مزیدار ہو جاتا ہے۔

سنگترے یا یموں

۱۲ ماہ

سنگترے یا یموں دو عدد
پانی ڈھانی کپ
شہد آدھا کپ
پھل کو اچھی طرح دھولیں۔ چھیلے بغیر چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاش میں
اور پنج نکلتے جائیں۔ ساری چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر پانچ منٹ تک بلینڈ کر
لیں۔ پھر چھان کر ٹھنڈا کر لیں۔

۱۲ ماہ

شہد ملا یموں
شہد ڈیڑھ کپ
پانی ۵ کپ
تازہ یمن جوں ایک کپ
پودینے کے پتے حسب ذائقہ
سخت سردی میں گرم رکھنے والا۔
ساری چیزوں کو ساس پین میں مکس کر لیں اور ہلکی آنچ پر رکھیں۔ زیادہ جوش نہ
دیں کیونکہ زیادہ جوش دینے سے وٹامن سی ضائع ہو جاتے ہیں۔

۱۲ ماہ

یمین

یموں چار سے چھ عدد
ڈیڑھ کپ دیسی چینی
پانی ۶ کپ

لیموؤں کے نہایت باریک چھلکے اتار لیں۔ ان چھلکوں کو دو کپ پانی میں ساس پین کے اندر ڈال دیں اور چینی بھی ملا دیں۔ پندرہ منٹ تک پکنے دیں۔ چھان کر ٹھنڈا کر لیں۔ لیموں اچھی طرح نچوڑ کر ایک کپ جوں نکال لیں اور ایک بڑے جگ میں چھان لیں۔ اس میں باقی چار کپ پانی اور ٹھنڈا شربت ملا لیں۔ ٹھنڈا کر کے بچ کو دیں۔

خوبانی ٹاپنگ

۱۲ ماہ

۴۵۰ گرام خشک خوبانی دو سے تین (کھانے کے) چیخ شہد پانی جس میں خوبانی ڈوب جائے۔

رات بھر خوبانیوں کو بھلوئے رکھیں۔ پھر انہیں آنچ پر رکھ کر زم کر لیں اور ان میں شہد گھول لیں۔ خوبانیاں نکال کر بلینڈر میں ڈال دیں اور گودا بنالیں۔ انہیں دوبارہ پکے ہوئے آمیزے میں ڈال دیں اور دھیکی آنچ پر ہلاتے رہیں، یہاں تک کہ سب کچھ یک جان ہو جائے۔ بار بار چیک کریں۔ اگر آمیزہ گاڑھا ہو تو اور پانی ملا لیں۔

آپ اسی طرح دوسرے فروٹ ٹاپنگ بھی تیار کر سکتے ہیں۔ تازہ یا خشک دونوں قسم کے پھل استعمال کئے جاسکتے ہیں۔

اگر آپ کے ہاں بلینڈر ہے تو آپ سارے گھر کے لئے مزیدار اور غذا اہمیت سے بھر پور مشروبات تیار کر سکتے ہیں نیچے دی ہوئی کچھ چیزوں کو ملا کر دیکھیں۔

ایک کپ انناس کا جوں اور ایک (کھانے کا) چیج دلیسی پنیر
ایک کپ اور نجی جوں اور ایک (کھانے کا) چیج کریم پنیر
ایک کپ اور نجی جوں اور ایک انڈے کی زردی
ایک کپ انناس کا جوں اور آدھا تازہ کدو کش کیا ہوا ناریل اپنی مرضی سے
آپ اور بھی چیزیں تازہ اور نجی جوں میں ملا کر جھوڑا سادہ، شہد، یا پنیر ڈال سکتی
ہیں۔

نوٹ۔ کسی بھی پھل یا دودھ میں ایک چیج دہی بہت زیادہ غذائیت بخشتا ہے۔

وہی

وہی کو سارے گھر کی بنیادی غذا میں شامل کر لیں خالص دودھ کی وہی ابتدا
میں بچے کے لئے لا جواب خوارک ہے لہذا چار پانچ ماہ کی عمر سے اسے بچے کی غذا
میں روزانہ استعمال کرائیں۔ وہی، دودھ کی نسبت جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ بلکہ
ماں کا دودھ پینے والے بچے بھی اسے بہت جلد ہضم کر لیتے ہیں۔ خالص دودھ کی
نسبت اس میں وہاں من بی کمپلیکس زیادہ پائے جاتے ہیں۔

چھوٹے اور بڑے بچوں سے وہی با آسانی کھایا جاتا ہے اور مصروف ماؤں
کے لئے اسے کھانے کے طور پر دینا نہایت آسان ہے۔ اسے فروٹ اور سبزیوں
میں مکس کر کے بھی دیا جاسکتا ہے۔ ناشستے اور دوپہر کے کھانے میں فروٹ اور ناخ
کے ساتھ دیں۔

وہی خود گھر پر تیار کریں۔ اسے تیار کرنا بہت آسان ہے۔ معاشری طور پر بھی فائدہ مند ہے۔ وصیان رہے کہ اس میں کسی قسم کی چینی یا مٹھاں شامل نہ کریں۔ کسی بھی قسم کا دودھ استعمال کیا جاسکتا ہے۔ خالص دودھ، کریم نکلا ہوا دودھ، خشک دودھ کا پاؤڈر، الیوی پورسچڈ ملک یہاں تک کہ سویا بنن کا دودھ بھی استعمال میں لایا جاسکتا ہے۔

دودھ کے اندر چینی بیکٹیریا پیدا کرتی ہے۔ جو اسے لیکن ایسڈ میں تبدیل کرتے ہیں جب دودھ کی وہی بنتی ہے تو اس کی شکل میٹھے حلے کی سی بن جاتی ہے۔ جو نبی وہی تیار ہو جائے تو اسے فرنچ میں رکھ دیں جہاں تھنڈا ک اس میں مزید بیکٹیریا پیدا نہیں ہونے دیتا اور وہی زیادہ کھٹی بھی نہیں ہوتی۔ اگر دودھ کو فوری طور پر تھنڈا نہ کیا جائے تو وہی سے پانی الگ ہو جاتا ہے۔ اگر دودھ کو بہت زیادہ گرم رکھا جائے تو بیکٹیریا ختم ہو جاتے ہیں اور دودھ وہی میں گاڑھا نہیں ہوتا۔

گھر پر وہی تیار کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ الیکٹریک یوگرٹ میکر بھی خریدا جاسکتا ہے۔ لیکن گھر پر پہلے سے موجود ہر تنوں کو استعمال کر کے سادہ طریقوں سے بھی وہی جماںی جا سکتی ہے۔

نسخہ۔۱

گھر پر تیار کردہ دہی

تین بڑے چمچ

کمرشل یوگرٹ

ملک پاؤڈر

دودھ ڈھانی کپ

ایک جار میں ابلاستہ ہوا پانی ڈالیں۔ یہ پانی اس میں چند منٹ رکھنے کے بعد باہر انڈیل دیں۔ پانی ڈالنے سے پہلے جار میں چیج رکھنا نہ بھولیں ورنہ جار کر کیک ہو جائے گا۔ خشک دودھ اور خاص دودھ مکس کر لیں۔ انہیں ساس پین میں ڈال کر ابلنے کے پواخت تک جوش دیں۔ اتار کر جب نیم گرم ہو جائے انگلی سے چیک کر لیں تو اس میں کمرشل یوگرٹ ملا کر سارا آمیزہ جار میں ڈال دیں۔ جار پر ڈھکن دے کر اسے کسی صاف کمبل میں لپیٹ کر پلاسٹک کی بائی میں رکھ دیں۔ اس بائی کو گھر کے کسی گرم کونے میں رکھ دیں۔ تقریباً سات گھنٹے تک پڑا رہنے دیں۔ اسے کھول کر فریج میں رکھ دیں۔ انگلی دفعہ دہی جمانے کے لئے تین چیج دہی نکال لیں۔

گھر پر تیار کردہ دہی

نسخہ ۲

ڈیڑھ کپ دودھ کا پاؤڈر (کریم یا کریم کے بغیر یا ان دونوں کا مکسر)
 ۳ (کھانے کے) چیج کمرشل سادہ یوگرٹ
 ۲۰۰ گرام خشک دودھ (آدھا ڈبہ)
 نیم گرم پانی ساڑھے چار کپ
 دو کپ نیم گرم پانی میں دودھ کا پاؤڈر اور یوگرٹ کسی پیالے میں ملا دیں اور

چجھ سے پھینٹیں۔ پھر اس میں خشک دودھ اور ڈھانی کپ نیم گرم پانی بھی ملا دیں اور چجھ سے پھینٹیں۔ پھر اس میں خشک دودھ اور ڈھانی کپ نیم گرم پانی بھی ملا دیں۔ اچھی طرح مکس کر لیں۔ اسے چھ کپ والی کیسرول ڈش (Casserole Dish) میں انڈیل دیں یا جار میں ڈال لیں الیکٹرک فرانی پین میں اخبار کی بہت سی تہیں لگا کر ڈش یا جار اور پر رکھ دیں۔ فرانی پین کو 100f 38c پر رکھیں۔ چھ گھنٹے رکھنے کے بعد فرنج میں رکھ دیں۔

گھر پر تیار کردہ دہی نسخہ - ۳

۱۲۵ اگرام پاؤ ڈر ملک ۳ ٹیبل سپون کمرشل سادہ یوگرٹ

ساری چیزیں ایک بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کریں اور ڈھکن والے جار میں انڈیل دیں اور الیکٹرک یوگرٹ میکر پر رکھ دیں یا آ ڈھی بلینگ ڈش میں نیم گرم پانی ڈال کر جار ان کے اندر رکھ دیں اسے پانکٹ لائٹ پر گرم اوون میں رکھیں۔ چھ گھنٹے پڑا رہنے دیں یہاں تک کہ سیٹ ہو جائے۔

دہی سیب ۵ ماہ

۳ ٹیبل سپون دہی آ ڈھانی سپون شہد (اگر پسند ہو)

۳ ٹیبل سپون دم پختہ سیب

فروٹ دہی

۱۵ ماہ

دہی کو کسی موسمی تازہ یا پکے ہوئے بچل میں ملا کر دیا جا سکتا ہے۔ چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں۔ اگر فروٹ ذرا کھٹا ہو تو جھوڑ اسے شہد مالیں۔ فروٹ دہی کو ناشتے، دوپہر کے کھانے میں اور سویٹ ڈش کے طور پر بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ یہ گھر کے سارے افراد کیلئے لذیذ چیز ہے۔

کیرب دہی

۱۸ ماہ

ٹبلیبل سپون دہی ایک ٹی سپون کیرب کیرب کو بہت احتیاط سے متعارف کرائیں۔ شروع میں صرف چنکی بھر کر بہر کر کیرب دہی و دھن پر چھڑ کیں۔

یوگرٹ آنس بلاک

۱۲ ماہ

دہی کو کسی موسمی بچل میں ملانیں اور انہیں آنس بلاک ٹرے میں ڈال دیں۔

نخ بستہ فروٹ دہی

۱۸ ماہ

۲۴ چیج ہڈیوں کے گودے کا سفوف
۱۲ انڈوں کی سفیدی

۲ بڑے چیج گرم پانی
آدھا کپ کیسٹ شوگر

۲۵۰ گرام خشک خوبانی
۲۰۰ گرام سادہ دہی

خوبانی کورات بھر پانی میں ڈبوئے رکھیں اسے پکا کر زم کر لیں اور پانی نکال لیں۔ ہڈیوں کا سفوف گرم پانی میں ڈال دیں۔ جب یہ گھل جائے تو اسے بلینڈ میں انڈیل دیں۔ اس میں پکی ہوئی خوبانیاں ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کر کیں تاکہ سب کچھ یک جان ہو جائے پھر دہی ملا کر بلینڈ کریں۔ کسی مناسب فریز کرنے والے برتن میں انڈیل دیں۔ یہاں تک جما کیں کہ برف اس برتن کے چاروں طرف جم جائے۔ برف کو کانٹے سے اتار لیں۔ انڈوں کی سفیدی اچھی طرح پھینٹ لیں پھر آہستہ آہستہ اس میں چینی ملاتی جائیں یہاں تک کہ سفیدی سخت ہو جائے۔ یہ فروٹ دہی کے آمیزے پر ڈال دیں اور پھر اسے آنس کریم ٹرے میں انڈیل کرتا تی دیر فریز کریں کہ یہ جم جائے۔

خوبانی کی بجائے ہم اس میٹھے آمیزے میں ۲۵۰ گرام فروٹ بیری یعنی سڑا بیری اور رس بھی ڈال سکتے ہیں۔ ان کے علاوہ بڑے دو عدد پکے ہوئے کیلے، تازہ انناس یا کوئی موسمی پھل بھی ملایا جا سکتا ہے۔

اناج

پکے پکائے یا پیک کئے ہوئے کھانوں کی بجائے بچوں کو قدرتی اناج سے

متعارف کرائیں۔

بچپن سے لے کر بڑے ہونے تک اناج کو ہماری غذا میں نہایت اہم مقام حاصل ہے۔ عام طور پر ہم اسے روٹی کی شکل میں استعمال کرتے ہیں۔ مگر افسوس سے کہنا پڑتا ہے ہم اناج کو مشینوں سے صاف اور زیادہ باریک پیس کر جس سے زیادہ ہیئت ہو کر ان کی غذا نہیت فنا ہو جاتی ہے۔

اپنے خاندان کی خاطر آپ قدرتی غذا نہیت سے بھر پور اناج تلاش کریں۔ چاول، گندم، باجرہ، جوئی یونچے دینے ہوئے طریقوں سے ان کا ذائقہ اچھا بنانا کر استعمال کریں۔

۱۔ اناج کو کپے یا سچے فروٹ میں مکس کریں۔ (بہت چھوٹے بچوں کو گودا سا بنا دیں) بڑے بچوں کیلئے خوبی وغیرہ ملائی جاسکتی ہے۔

۲۔ زیادہ پکی یا تلی ہوئی گندم کی مختلف چیزوں میں فروٹ کے پیس کاٹ کر لگائیں۔

۳۔ اناج کی کپی ہوئی چیزوں کے پیالے کے اوپر شہد، دہی یا فروٹ کے نکلے سجاویں۔

۴۔ مزید پروٹین اور خون گلوارنگ کے لئے خشک ملک پاؤڈر کا اضافہ کریں۔ میں بچے کی ابتدائی ٹھووس غذا میں فروٹ اور دہی کو ترجیح دیتی ہوں اگر آپ نے پہلے اناج دینے کا سوچا ہو یا کسی نے آپ کو اس کا مشورہ دیا ہو تو بچے کے مختلف کھانوں کی ترکیبیں دی جا رہی ہیں۔

چاول

بلینڈر کے اندر کچے براؤن چاول کلودو کلوا یک ساتھ پیس لیں یا ہر بار آدھا کپ پیسیں۔ چاول کا سفوف کسی مخصوص طور پر نہیں۔

ماہ ۲۳

چاول کی کریم

ڈبل بوائلر یا بھاری ساس پین میں ایک کپ پانی ڈالیں اور اسے ہلکی آنچ پر رکھ کر اس میں آہستہ آہستہ چوتھائی کپ چاولوں کا سفوف ڈالیں تقریباً اس منٹ تک پکائیں کہ کریم سی تیار ہو جائے۔ چچ مسلسل ہلاتی جائیں تاکہ گھٹلیاں نہ بنیں۔

اگر آپ پسند کریں تو اس میں جھوڑ اسادو دھملائیں۔ تیار ہو جانے پر اسے دو مرتبہ بچے کو دیا جا سکتا ہے۔ آہمی کریم فرج میں رکھ لیں جب بچے کو دینے کا وقت ہو تو نیم گرم کر لیں۔

ماہ ۲۶

راکس سمونی

چاولوں کا سفوف آدھا کپ دو دھمکیوں کے ساتھ سس پین میں دو دھمکیوں کا سفوف ملا لیں۔ اس میں چاولوں کا سفوف ملا لیں۔ اور مسلسل چچ سے ہلاتی جائیں۔ دھیمی آنچ رکھیں اور اس منٹ

تک پکنے دیں۔

اس انج کو شہد، دم پختہ سبب، دہی، سچلے ہوئے کیلے یا مختلف چیزوں کے آمیزے کے ساتھ بھی دیا جاسکتا ہے۔

چاول کی پڈنگ

۱ کپ کپے ہوئے برائیں چاول دوانڈے اچھی طرح پھینٹے ہوئے
۲ کپ دودھ آ دھاچھ و نیلا
آ دھا کپ ملک پاؤڑر چوتھائی کپ کشمکش
آ دھا کپ شکر یا شہد خوبانی
خوبانی

اچھی پکھا ہوا مکھن

جی ہاں! آج ناشتے میں یہی بنائیں اور تھنڈا کر کے پیش کریں۔

گیہوں کے علاوہ ساری چیزوں کو مکس کر لیں۔ چھ کپ والی کیسیرول ڈش میں مکھن لگائیں اور اس پر سارا آمیزہ ڈال دیں۔ اس پر گیہوں کے دانے ڈال دیں۔ گیس مارک 175c4 (350F) پر بیس منٹ تک پکائیں۔ تھنڈا کر کے مزید دودھ اور تازہ فروٹ کے ساتھ پیش کریں۔

رائے میدلے

ایک نہایت سادہ غذا جسے ٹھنڈا یا گرم دونوں طرح دیا جاسکتا ہے۔ اسے سطور کر کے بعد میں بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اسے رائس میڈ لے یا رائس سلاو کہا جاتا ہے۔

ایک کپ پکے ہوئے براون چاول میں گوشت کا قیمہ، سبزیاں، ٹھنڈے ابلے ہوئے سخت انڈے، پنیر کے ٹکڑے، تازہ یا ڈبے کی مچھلی کے ٹکڑے یا کدو کش کیا ہوا سیب، ان آمیزوں کو سادہ طور پر ملائیں مگر بچے کی عمر کا خیال رکھیں۔ آپ چاول پکا کر بند ڈھلن والے برتن میں ڈال کر فرنج میں رکھ لیں تاکہ آپ جب چاہیں ٹھنڈا رائس سلاو یا گرم رائس میڈ لے جھوڑے سے وقت میں تیار کر لیں۔ چاولوں کو گرم کرنے کے لئے ایک برتن میں پانی ابال کر اس میں چاول کا برتن جھوڑی دیر تک رکھیں۔ اس میں سبزی، قیمہ ملایا جاسکتا ہے۔ اس میں جھوڑا سامکھن یا دودھ ملا کر دھیمی آنچ پر ہلائیں تاکہ چاول اچھی طرح گرم ہو جائیں۔

جو

جو کو آہستہ آہستہ متعارف کرائیں۔ اس کے استعمال سے بعض بچوں کے گلے میں خراشیں پڑ جاتی ہیں۔ اسے بلینڈر میں پیس کر ڈھلن والے ڈبے میں ڈال دیں۔ پسی ہوئی جو جلد پک جاتی ہے۔ صبح کے اوقات میں وقت بچائیں کیونکہ یہ بہت مصروفیت کا وقت ہوتا ہے۔

جو کا دلیہ

۵ ماہ

ثابت جو آدھا کپ پانی ڈھانی کپ
 ابنتے ہوئے پانی میں آہستہ آہستہ جو ملادیں۔ برتن پر ڈھکن دے کر تمیں
 منٹ تک پکائیں۔ اگر پسند کریں تو اس میں دو دھملائیں۔

کیلا جئی اور جو

۵ ماہ

آدھا کپ پسی ہوئی جو یا جئی آدھا کیلا
 ایک کپ دو دھیا پانی آدھا کپ دو دھیا دھی
 پسی ہوئی جئی میں ایک کپ پانی یا دو دھملا کر بال لیں۔ اسے چار پانچ منٹ
 تک پکنے دیں۔ مسلسل چیج ہلاتے رہیں۔ چوڑھے سے اتار کر پانچ منٹ یونہی پڑا
 رہنے دیں۔ کیلے کو کاٹ کر بلینڈر میں ڈال دیں اور باتی دو دھیا دھی ملا کر پھینٹ
 لیں۔ جب انداز پک کر تیار ہو جائے تو کیلے کا آمیزہ اس میں ملادیں۔ کیلے کے
 علاوہ آپ تازہ سیب کا گودا، یادم پختہ سیب یا ناشپاتی بھی ملائکتے ہیں۔

۷ ماہ

با جرہ

با جرہ کا دلیہ

دو کپ پانی

با جرہ آدھا کپ

البتہ ہوئے پانی میں باجرہ ڈال کر دس منٹ تک پکائیں۔ پھر آنچ دھیمنی کر لیں اور تقریباً تیس منٹ تک پکنے دیں۔ یہاں تک کہ باجرہ گاڑھا ہو جائے۔ سیب کے گودے کے ساتھ پیش کریں۔

گندم

ماہ ۸

گرم اناج کی غذا

چوتھائی کب شہری گندم کے دانے پون کب البتہ ہوا پانی
چوتھائی کپ ٹھنڈا پانی چوتھائی کپ ملک پاؤ ڈر
چچ پسی ہوئی گندم

گندم کے دانے، پسی ہوئی گندم اور ٹھنڈا پانی ملا لیں۔ پون کپ پانی ابال لیں اور اس میں گندم کا آمیزہ اور ملک پاؤ ڈر ملا دیں۔

اسے مسلسل ہلاتے جائیں۔ دو منٹ تک پکائیں، شہد، تازہ فروٹ کے گودے کے ساتھ پیش کریں۔ بڑے بچوں کے لیے اس میں کشمش یا کٹی ہوئی کھجوریں ڈال دیں۔

کارن میل مش

ماہ ۸

آدھا کپ پانی چوتھائی کارن میل
ایک چھوٹے سے ساس پین میں پانی ابال لیں اس میں کارن میل ڈال کر

دھیمنی آنچ پر پندرہ منٹ تک پکا کیں۔

۱۰ ماہ

بے بی موسالی

گندم کے والے چوتھائی کپ جوئی آدھا کپ

(چائے کے چیز) دلیسی چینی باجرہ چوتھائی کپ

بادام یا اخروٹ

ساری چیزیں بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح پیس لیں۔ انہیں کسی بندڑ بے میں ڈال لیں۔ دودھ یا تازہ فروٹ کے گودے کے ساتھ سس

(WHEATGERM)

ویٹ جرم

گندم کے والے کے درمیان میں ایک جنین یا جرم ہوتا ہے جس میں غذائیت اور ونامن کی بہت سات پائی جاتی ہے۔ یہی وہ جنین ہے جسے ملوں میں صاف کرتے وقت ضائع کر دیا جاتا ہے۔ ونامن اور غذائیت سے بھر پورا س چیز کو ہیلاتھ سٹور سے خریدا جاسکتا ہے۔ اسے استعمال کرنا یکچیں۔ نہ صرف چھوٹے اور بڑے بچوں بلکہ سارے گھر کے لئے اسے سادہ طور پر یا ٹوٹ کی شکل میں دودھ یا فروٹ کے ساتھ کھایا جاسکتا ہے۔

بدبو سے بچانے کے لئے ویٹ جرم کو فرتنج میں رکھیں۔ چھ ماہ سے کم عمر کے بچے کو یہ غذائی دیں۔ چھ ماہ کے بعد اسے دینے سے پہلے بچے کو دکھا کر ڈاکٹر سے

مشورہ لے لیں۔ اسے نشاستہ بھی کہتے ہیں۔

ابتدائیں آہستہ آہستہ دوسری غذاوں میں ملا کر دیں۔ یہاں تک کہ بچا سے خود چبا کر دو دو حصے کے ساتھ لے سکے۔ کچھ بچے سادہ ویٹ جرم نہیں لیتے۔ اس صورت میں اگر چہ کم غذا نہیں ہو بلکہ سیریل (Packaged Cereals) میں خرید لیں بہتر ہے۔

ٹو سٹڈ ویٹ جرم

۲ کپ ویٹ جرم شہد آدھا کپ
شہد کو جھوڑا سا گرم کر لیں تاکہ ویٹ جرم اس میں اچھی طرح مکس ہو جائے۔
اس آمیزے کو چکنی بیلنگ شیٹ پر پھیلایا کر دس منٹ تک گیس مارک ۱۵۰ c (300F) پر اون کی تیسری تہہ میں پکائیں۔ فرنج کے اندر بندو بے میں رکھیں۔

ناشستے میں ویٹ جرم اور دہی

کھانے کا ایک چھچھ ویٹ جرم تازہ
بے بی کے لیے کھانے کا ایک چھچھ
کھانے کے دو چھچھ سادہ دہی کھانے کا گودایا کچلا ہوا کیا
گھر کے دوسرے افراد کے لئے چائے کا ایک چھچھ شہد
کوئی سا بھل

ساری چیزیں مکس کر کے کھلائیں یہ بہت جلد (غذا انتیت سے بھر پور) تیار ہونے والی غذاء ہے جسے ناشتے میں سارا گھر پسند کرتا ہے۔ مختلف ڈالتوں کے لئے مختلف چیزیں مکس کر لیا کریں۔

۱۲ ماہ

ویٹ میل پورج

۳ چیچ ویٹ میل سوا کپ پانی
ویٹ میل پر چھوڑ اس اٹھنڈا پانی چھڑک کر انہیں تر کر لیں۔ بقلایا پانی کو ابال لیں۔ بلینڈر کیے ہوئے ویٹ میل کو اس میں ڈال کر دس پندرہ منٹ تک آہستہ آہستہ پکائیں۔ کبھی کبھار چیچ سے بھی ہلائیں۔
اس کو پکانے کی ایک اور ترکیب بھی ہے۔ ویٹ میل کو رات بھر بھلوئے رہیں پھر ابال لیں۔ ابالنے کے بعد دس پندرہ منٹ تک اسی طریقے سے پکائیں۔ دو دفعہ اور شہد، تازہ یا دم پختہ سیب کے ساتھ پیش کریں۔

دو سال سے اوپر کی عمر کیلئے دیسی پنیر کا کیک

۴ انڈے ڈیڑھ بڑے چیچ خاص دیسی گندم کا آٹا
ایک کپ دیسی پنیر ایک چیچ ویٹ جرم
پکھا ہوا مکھن ڈیڑھ چیچ
مکسر کے ساتھ یا بلینڈر میں انڈے پھینٹ لیں۔ پنیر ملا کر اچھی طرح یک

جان کر لیں۔ پھر مکھن آٹا اور وہیٹ جرم ملا لیں۔ پین کو جھوڑا سا چکنا کر کے آمیزہ اس میں انڈیل دیں اور پکا لیں۔ دم پختہ سبب یا خوبانی کے گودے کے ساتھ پیش کریں۔

گندم کے لذو دوسال سے زائد عمر کیلئے

ایک کپ موٹلی
چوتھائی کپ کئی ہونی کشمکش
ایک چھجھ اجوان خراسانی
دودھ حسب ضرورت
برڑے چھجھ وہیٹ جرم
چھوٹے چھجھ گندم کے دانے
بلینڈر میں اٹا ج ڈال کر پیس لیں۔ دودھ کے علاوہ باقی چیزیں بلینڈ کر لیں۔
سارے آمیزے کو اکھا کرنے کے لئے اس میں دودھ ملا لیں تاکہ ان کے لذو بنائے جاسکیں۔ بندو بے میں ڈال کر فرٹچ میں ڈال لیں۔ ناریل باریک کاٹ کر رکھ لیں۔ آمیزے کے لذو بنانا کراو پر ناریل لگا لیں۔ اگر پسند ہو تو ایک چھجھ مکھن بھی شامل کر لیں۔

گھر پہ تیار کردہ روٹی

ٹوست بنانا کر سال کے بچے کے ہاتھ میں تھما دیں۔

کیلے اور ناریل کی روٹی کا ناشتا

ایک چیج و نیلا	چو تھائی کپ مکھن
ڈیڑھ کپ خالص دیسی آنا	آ دھا کپ دیسی چینی
دو چیج بیلگ پاؤ ڈر	ایک پھینٹا ہوا انڈا
آ دھا چیج بیلگ سوڑا	ایک کپ گندم کا بھوسا
چھیا پاچ کچے ہوئے کیلے	آ دھا چیج نمک
آ دھا کپ پسی ہوتی ناریل	
مکھن اور چینی کی کریم بنا لیں۔ اس میں انڈا اچھی طرح پھینٹ لیں۔ پھر اس میں اناج، کیلے اور و نیلا ملا کر ہلائیں۔ باقی سامان کو ایک پیالے میں ڈال کر پہلے والا آمیزہ ملا لیں اور اچھی طرح گوندھ لیں۔ آٹے پر چکنائی مل لیں ایک گھنٹے تک گیس مارک 4,175C (350F) پر پکائیں۔	

ہائی پروٹین کارن بریڈ

ایک کپ کارن میل	ایک انڈا
آ دھا کپ سوئے کا آنا	ایک کپ مائع دودھ میں ۲/۱ کپ پاؤ ڈر
ملک	
آ دھا کپ خالص دیسی گندم کا آنا جس میں تمیں بڑے چیج شہد ملا ہو	
دو چھوٹے چیج بیلگ سوڑا	آ دھا چھونا چیج نمک
خشک چیزوں کو مکس کر لیں مائع چیزوں کو اٹھا پھینٹ لیں اور اس آمیزے کو	

خشنل چیزوں کے آمیزے میں ملا کر یک جان کر لیں۔ گریس لگے ڈبے میں ڈال کر تقریباً تین منٹ گیس مارک 5 (375F) 190C پر پکائیں۔ گھر کے بڑے افراد کے لئے گرم گرم بہت لذیذ ہے۔ دس ماہ سے اوپر کے بچوں کے لئے اس کے ٹوست کاٹ لیں۔

روٹی کے ٹکڑے

صرف خالص دیسی آٹے کی روٹی لیں۔ اس کے تقریباً ۲۵ سینٹی میٹر موٹے اور ۱۰ سینٹی میٹر چوڑے ٹکڑے کاٹ کر ایک گھنٹے تک دھیمی آٹج پر اون میں پکا کر خشنل اور خستہ بنالیں۔ ٹھنڈے کر کے بند ڈبے میں ڈال لیں۔ دانت نکالنے والے بچوں کو دیں۔

سبزیاں

عام طور پر بد ذاتی طور پر پیش کرنے سے بچے اور بڑے انہیں کھانے سے گریز کرنے لگتے ہیں۔ اس صورت حال سے نجات پانے کے لیے تھوڑی سی احتیاط اور سوچ کی ضرورت ہے۔ سبزیاں صحت کی دولت ہیں۔ ان میں بہت زیادہ ونائیں اور معدنیات پائے جاتے ہیں جو بچوں، بڑوں بلکہ سب کے لئے مفید ہیں۔

سبزیوں کو خریدتے اور پکاتے وقت کچھ باتیں ذہن میں رکھیں۔ باسی سبزی

نہ خریدیں۔ اس کے وٹامن سی زائل ہو چکے ہوتے ہیں۔ سبزیوں کو سوکھا کر بھی استعمال نہ کریں۔ ہمیشہ تازہ اور موئی سبزی استعمال کریں۔ جہاں تک ممکن ہو ڈبے کی سبزیوں سے اجتناب کریں۔ صحیح رنگت اور غذائیت تازہ سبزیوں میں ہی ملتی ہے۔ فریز کی ہوئی سبزیوں کے وٹامن ضائع ہو جاتے ہیں۔

آپ جو سبزیاں اگائیں یا خریدیں تو انہیں پکانے وقت نیچے دی گئی ہدایات پر عمل کریں۔

سبزیوں کو بھگوئیں مت۔۔۔ بہتے پانی میں انہیں اچھی طرح دھولیں۔

سبزیوں میں سوڈانہ ملائیں۔ اس سے ان کی غذائیت ختم ہو جاتی ہے۔

برائے مہربانی سبزیوں کو زیادہ بال کران کی زندگی نہ چھین لیں۔ زیادہ پکانے سے ان کے وٹامن زائل ہو جاتے ہیں۔

سبزیوں کو جھوڑے سے پانی میں الایں۔ تاکہ یہ صرف بے بی کے کھانے کے لئے نرم ہو جائیں۔ بڑے بچوں کے لئے سبزی جھوڑی بہت خستہ بھی ہو جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ سبزیوں میں البا ہوا فاتو پانی بچوں کو بوتل میں ڈال کر یا خشک، غذاوں کو اس میں نرم کر کے دیا جاسکتا ہے۔ سبزیوں کو ان کی بھاپ میں پکانا بہترین طریقہ ہے۔ ان کو چند منٹ التے پانی کے اندر بھاپ دیں۔ ان کی رنگت اور ذائقہ لا جواب بنے گا۔ سیمیر کوئی مہنگے نہیں ملتے۔ یہ عام سائز کے ساس پین میں فٹ آ جاتے ہیں۔

آلود کردہ جیسی سبزیوں کو پکانے سے پہلے نہ چھیلیں۔ انہیں پکانے کے بعد چھیلیں۔ گاجر کے صرف روئیں اتاریں چھیلیں نہ۔

ذائقے میں اضافہ کرنے کے لئے زیادہ اجوائیں اور لمبیں کا استعمال نہ کریں۔ دونوں میں ونامن سی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں۔ پنیر یا انڈے کی زردی اور دہی وغیرہ سبزیوں کی وراگٹی اور دلچسپی میں اضافہ کرتی ہیں۔

بچے کو ابتداء میں مندرجہ ذیل سبزیاں دیں۔

کدو، گاجر، میٹھے آلو، آلو، مغزدار سبزیاں مشر، پالک، سبز پھلیاں وغیرہ۔

ماہ

سبزی کا بھرتہ

سبزیوں کا سالن بنانے کے لئے انہیں تھوڑے سے پانی میں بالیں جب یہ نرم ہو جائیں تو تھوڑے بہت باقی بچے ہوئے پانی میں انہیں بلینڈ کر لیں۔ کسی کائنٹ، ڈولی یا پچھ سے انہیں یک جان کر لیں۔

ابتداء میں اس طریقے سے بنائی جانے والی سبزیاں بچے کی غذا کا بہترین جزو ہیں۔ چھ ماہ کے بچے کے لئے مندرجہ ذیل سبزیاں ملاکر پکائیں۔

سبزی کا بھرتہ دیسی پنیر کے ساتھ سبزی کا بھرتہ دہی کے ساتھ

سبزی کا بھرتہ پھلکے کشڑ کے ساتھ سبزی کا بھرتہ انڈے کی زردی کے ساتھ

سبزی کا بھرتہ روٹی کے ساتھ سبزی کا بھرتہ کٹے ہوئے انڈے کے ساتھ

بھرتے میں تھوڑا سا دودھ ملاکر سوپ بنالیں۔ شور بہ بنانے کے لئے تھوڑا پانی

ڈال کر پکائیں۔ روٹی یا ٹوست کے ساتھ بہت لذیز لگتا ہے۔ اسے فروٹ یوگرٹ کے ساتھ بھی دیا جاسکتا ہے۔

بہت ساری سبزی کا ایک ساتھ بھرتہ بنانے سے خاصا وقت فوج جاتا ہے۔ مصروفیت کے دنوں میں استعمال کرنے کے لئے اسے آنس بلاک ٹرے میں ڈال کر فریز کر لیں۔ چھ ماہ سے اوپر کی عمر کے بچوں کے لئے ذائقہ بہتر بنانے کے لئے بھرتے میں فروٹ کا اضافہ کر لیں۔ سکھے ہونے آلو کے ساتھ گٹا ہوا سیب اور کچالا ہوا کیلا بہت اچھی لذت دیتا ہے۔

کدو

ابتداء میں بچے کی دو مرغوب سبزیاں ہوتی ہیں کدو اور میٹھی آلو۔ دنوں چیزیں نرم اور میٹھی ہوتی ہیں۔ جنہیں بچے بہت پسند کرتا ہے۔ انہیں وہ آسانی سے ہضم کر لیتا ہے۔ کدو کی کوئی بھی وراثتی اس کے لئے مناسب ہے۔ لوکی کا فلیور چھوٹے اور بڑے بچوں میں بہت مقبول ہے۔ لوکی کو بچوں اور بڑوں کے لئے کئی طریقوں سے تیار کیا جاسکتا ہے۔

ماہ

لوکی

کدو کو چھیلے بغیر موٹی کاشمیں کاٹ لیں اور سٹیم کر کے نرم کر لیں۔ پھر چھلکے اتار کر کچل لیں یا بلینڈر میں گودا بنالیں۔ سارے گھر کے لیے لوکی کا ایک پیس کافی

ہے جھوڑ اس بچے کے لئے نکال لیں باقی پر اجوائیں خراسانی چھڑک کر سارے گھر والوں کو دیں۔

۶۲

لوکی کا سوب

ایک لوکی
ایک سفید (کٹی ہوئی) پیاز
آ دھایا ایک کپ دودھ
لوکی اور آلو کو چھیلے بغیر لمبے نکڑوں میں کاث لیں جھوڑے سے پانی میں
انہیں پیاز کے ساتھ ملا کر ابال لیں۔ جب سبزی پک جائے تو چھلکے اتار لیں اور
باقی سارے آمیزے کے ساتھ بلینڈر میں ڈال کر یک جان کر لیں۔ جھوڑ اس
دودھ ملا کر بچے کو دیں۔ بڑے افراد کے لئے مصالحہ وغیرہ چھڑک لیں اسے ڈنر
پارٹی میں بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔

۶۲

کدو کا سموسہ

ایک عدد پکا کر کچلا ہوا کدو
آ دھا کپ دیسی پنیر
ایک چھوٹی ویٹ جرم
چھوٹی اوون پروف ڈش میں مکھن لگا لیں۔ کدو اور پنیر کو ملا کر ڈش میں ڈال
دیں۔ اس پروف جرم چھڑک دیں دھیمی آنچ پر اوون میں پکا لیں

گاجر کا کسترڈ

ماہ ۶

ایک کپ پکی ہوئی گاجر کا بھرتہ پسی ہوئی اجوائی خراسانی

ایک کپ پھیکے انڈے کا کسترڈ انڈوں کی زردی

۲ کپ دودھ

انڈوں کی زردی اور دودھ کو ملا کر چینی میں پھر ہلکی آنچ پر رکھیں اور مسلسل ہلاتے جائیں یہاں تک کہ کسترڈ چیج سے چمٹنے لگے۔ فوراً آنچ سے اتار کر ٹھہنڈا کر لیں۔ بندوں میں ڈال کر فریج میں سٹور کر لیں۔

گاجر کا بھرتہ اور کسترڈ ملائیں۔ اجوائی خراسانی چھڑک کر ٹھہنڈا ہونے پر کھلانیں۔

ماہ ۸

گاجر میں پنیر

آدھا کپ دلیسی پنیر پسی ہوئی اجوائی خراسانی

آدھا کپ کدوکش کی ہوئی گاجر

ساری چیزوں کو ملائیں۔ پندرہ ماہ سے اوپر کی عمر کے بچوں کو سینڈوچ بنانا کر دیں۔

ماہ ۱۲

گاجر اور پنیر بیک

۲۵۰ گرام پسی ہوئی پنیر

چوتھائی کپ مکھن

چوتھائی کپ دیسی گندم کا آٹا
آدھا کپ ویٹ جرم
آدھا کپ روٹی کے نکلے
۲ کپ دودھ
(۱۲ اور میانی) گاجریں

کا جروں کو گلا کر نکلے کر لیں۔ پین میں مکھن پھال لیں۔ اس میں آٹا ڈال کر
ایک منٹ تک پکائیں آہستہ آہستہ دودھ ملائیں۔ ساتھ مسلسل چھچھ ہلاتے جائیں
یہاں تک کہ چلنی گاڑھی ہو جائے۔ مکھن لگی کیسیر ول ڈش میں ایک تھہ میں گاجر
اور ایک تھہ پنیر باری باری لگائیں۔ سب سے اوپر گاجر کی تھہ لگائیں چلنی اوپر
انڈیل کرویٹ جرم اور روٹی کے نکلے لگادیں۔ اوپر مکھن کے ٹیکے لگادیں۔
موڈریٹ اون میں میں منٹ تک پکائیں۔

三

بھونے ہوئے آلو اور سیب

پون کپ کے ہوئے میٹھے آلو
 ایک عدد سرخ سیب
 ویٹ جرم
 چوتھائی کپ دو دھن
 مان کا دو دھن پینے والے بچوں کے لئے کلنگ واڑا یا کپی ہوتی سبز یوں کا بچا
 ہوا پانی اور ویٹ جرم
 سیب کاٹ کر اس کے نکلے کر لیں۔ چھوٹی اور ان پروف ڈش میں لکھن لگا
 لیں۔ سیب کے نکلوں اور آلو کے اوپر نیچے تہہ لگا دیں۔ اس پر مانعات انڈیل
 دیں۔ اور ویٹ جرم چھڑک دیں۔ بند کر کے تمیں منت تک گیس مارک 175 C

(350F), 4 پر پکالیں۔ کھلاتے وقت کا نتے سے کچل لیں۔

۶ ماہ

میٹھے آلو کا کسٹرڈ

پون کپ آلو کا بھرتہ
ایک انڈے کی زردی (چینی)
(ہوتی)

پون کپ دو دفعہ
اس کے علاوہ گاجر اور کدو بھی مزید ارکسترڈ بناتے ہیں۔
ساری چیزوں کو اکٹھا بلینڈ کر کے مکھن لگے اور ان پروف ڈش میں ڈال لیں یا
علیحدہ علیحدہ کسٹرڈ کپ استعمال کریں۔ کسی برتن میں پانی ڈال کر اس میں رکھیں
اور تقریباً تیس منٹ پکائیں یہاں تک کہ سیٹ ہو جائے۔

ایک کپ پکا کر کچلے ہوئے آلو اٹیبل سپون پسا ہوانپیر
آدھا کپ پکی ہوئی پالک ویٹ جرم
پالک کو اچھی طرح دھو کر اس کے گندے اور بے کار ڈھمل نکال لیں۔ اسے
جھاڑ کر ایک ساس پین میں جھوڑ اس اپانی ڈال کر پانچ منٹ تک پکائیں۔
جب یہ ترکیب بارہ ماہ سے کم عمر کے بچے کیلئے استعمال کر رہے ہوں تو پالک کا
بھرتہ بنالیں۔ بڑوں کے لئے اچھی طرح گھول لیں۔

سبریاں اور پنیر ملا کر مکھن لگی اور ان پروف ڈش میں ڈال لیں۔ ویٹ جرم کا
چھڑ کاؤ کر کے موڑ ریٹ اور ان میں پندرہ منٹ تک پکائیں۔

آلو سفلے

۱۲ ماہ

پون کپ پکا کر کچھے ہوئے آلو	آ دھا کپ گرم دودھ
۲ انڈے الگ الگ	چیچ پسی ہوئی پنیر
ایک چیچ گھلا ہوا مکھن	نمک (۱۸ ماہ سے کم عمر کے لئے نہیں)

آلو، پنیر، دودھ اور نمک ملائیں۔ انڈوں کی پھینٹی ہوئی زردی اور گھلا ہوا مکھن ملائیں۔ نہایت آہستہ آہستہ سے انڈوں کی (اچھی طرح پھینٹی ہوئی) سفیدی ملائیں۔ مکھن لگے اور ان پروف ڈش میں ڈال کر اون پر پنیر چھڑک دیں۔ براؤں رنگ ہونے تک موڑریٹ اون میں پکائیں۔

گھونسلے میں انڈا

۱۲ مہینے

انڈا ایک عدد	ایک چیچ مکھن
۲ ٹیبل سپون پکے اور کچھے ہوئے آلو	ایک گھری ڈش میں مکھن لیں اور آلوؤں سے اس کے اندر ایک گھونسلہ بنائیں۔ اس میں انڈا توڑ دیں انڈے کے اوپر مکھن لگادیں اور پندرہ منٹ تک موڑریٹ اون میں پکائیں یہاں تک کہ انڈا سیدھا ہو جائے۔
چھوٹے اور بڑے بچوں کے لیے پکا کر پسی ہوئی پالک اور جھوڑی سی پسی ہوئی پنیر پکانے سے پہلے انڈے پر ڈال دیں۔	

آلوكا کیک

۱۸ ماہ

سڑے آلو
انڈا ایک عدد اچھی طرح پھینٹا ہوا
پسی ہوئی اجوائیں خراسانی
ایک ٹیبل سپون خالص دیسی
گندم کا آنا
تمبوڑا سانمک
آلوجھیل کر کدو کش کر کے انہیں پھینٹے ہوئے انڈے میں مکس کر لیں۔ فرانی
پین میں تیل گرم کر کے اس میں آلوجا آمیزی انڈیل دیں۔ ایک وقت میں ایک
ٹیبل سپون انڈیلیں۔ سنہری ہونے تک پکائیں۔ تیل اچھی طرح نجوڑ لیں۔ یہ
کیک بہت مزیدار ہوتے ہیں۔ انہیں دم پختہ سباؤں کے ساتھ دیں۔

PAESNIPS گا جریں

یہ بڑی مفید ہیں اور عام طور پر سوپ میں استعمال کی جاتی ہیں۔ چھ ماہ سے
زاید عمر کے بچے ان کو کھن اور اجوائیں خراسانی کے ساتھ اور کلی ہوئی صورت میں
بہت پسند کرتے ہیں۔ ہرنئے کھانے کے ساتھ انہیں بھی ابتدا میں آدھا چائے
کے چھ سے شروع کر کے بچے کا رد عمل چیک کریں۔ یہ بڑے بچوں کو بھی کھلانیں۔

ماہ

مظر

بچے عموماً مژہ پسند کرتے ہیں۔ اسے اکثر اوقات مژہ کھائیں۔ انہیں پکا کر نرم کر لیں۔ چھوٹے بچوں کے لیے پکا کر بیس لیں۔ وراٹی کے لیے اس میں دم پختہ سیب یا دلیسی پنیر ملا لیں۔ مژہ پکا کر بچے کی ٹڑے میں رکھ دیں اور دور سے اسے محضوظ ہوتے دیکھیں۔

پنیر ملے مژہ کے ماہ

آدھا کپ کپکے ہوئے مژہ
ایک ٹیبل سپون پسی ہوئی پنیر
دونوں کو ملا کر بلینڈ کر لیں۔ بڑے بچے کے لیے کانٹے سے کچل لیں۔

پالک سنبل ماہ ۱۸

۲۵ گرام تازہ پالک (دھلی اور چنی ہوئی) آدھا کپ دودھ
۲ انڈے (سفیدی اور زردی الگ کالیں) آدھا کپ پنیر (پسی ہوئی)
۳ ٹیبل سپون ناچس دلیسی گندم کا
نمک اور کالی مرچ (حسب ضرورت)
نمک کو پکھا کر اس میں آناؤال کر ایک منٹ تک پکائیں۔ چچ مسلسل ہلاتے ہوئے آہستہ آہستہ دودھ ڈالیں آمیزہ گاڑھا ہونے تک پکائیں۔ پھر اس میں پنیر، نمک اور مرچ ملا دیں۔ اور سارا پنیر پکھلنے تک پکائیں۔ انڈوں کی زردی اچھی

آٹا

نمک اور کالی مرچ (حسب ضرورت)

طرح پھینٹ لیں۔ اور آہستہ آہستہ آمیزے میں ملاتے جائیں۔ تھنڈا کر کے اس میں پالک ملا دیں۔ انڈوں کی سفیدی اتنی پھینٹیں کہ سخت ہو جائے۔ پالک کے آمیزے پڑال دیں۔ چکنی سفلے ڈش میں انڈیل کر دھینے اون میں ایک گھنٹے تک پکائیں یہاں تک کہ سفلے گولڈن براؤن ہو جائیں۔

۲ سال

پالک کے رول

ٹیبل سپون کشمکش

آدھا کپ پکے ہوئے براؤن چاول ایک چھوٹا سفید پیاز (ضروری نہیں)
آدھا کپ سیسی پنیر
آدھا کپ پسے ہوئے اخروٹ
ایک کپ ٹماٹر کا جوس

(اگر ۲ سال سے کم عمر کے بچوں کو دینا ہے تو بلینڈر میں پیس لیں)

پالک کو احتیاط سے دھو کر اس کے ڈنڈل نکال لیں۔ اس کے پتے ایک منٹ تک ابلٹے پانی میں رکھیں۔

چاول، پنیر، اخروٹ، پیاز اور کشمکش ملا دیں۔ تھوڑا سا نمک اور کالی مرچ ڈالیں۔

پالک کے ہر پتے پر چاول کا آمیزہ (ایک ایک چچ) ڈال کر اسے رول کر لیں اور پتے کے منہ بھی احتیاط سے بند کر دیں۔ پالک کے رول مکھن گلی کیسیر و ڈش میں ڈال کر ان کے اوپر ٹماٹر کا جوس ڈال دیں اور پسی ہوئی پنیر کا چھڑ کا دیں۔

گوجھی

۱۸ ماہ

اک پھول گوجھی (چھوٹا سائز) ایک کپ دودھ
 گوجھی کو اچھی طرح دھو کر کاٹیں اور دودھ میں پکائیں۔ زیادہ نہ کچنے پائے۔
 صرف نرم ہو جائے۔ وراثتی کے لئے اس میں چھوڑی سی پسی ہوئی پنیر ملا کر دیں۔

دوسری سبزیاں (سبزی کا بھوننا)

۱۲ ماہ

ایک چھ گندم کا آٹا	۲ آلو
۵۰۰ گرام کدو	۳ میاں گاجریں
ایک کپ سبز پھلیاں	ایک چھ مکھن
ایک کپ پسی ہوئی پنیر	اجوان خراسانی
دو کپ دودھ	

تین چار سال کے بچوں کو دوپھر کے کھانے کے طور پر دیں۔ ساری سبزیوں کو
 علیحدہ علیحدہ پکا کر نرم کر لیں۔ اجوان خراسانی ان کی تہوں میں لگا کر مکھن لگی
 کیسی روشن میں رکھیں۔ ساس پین میں مکھن پھال لیں۔ آگ سے اتار کر اس
 میں آٹا لیں اور ایک منٹ تک پکائیں۔ آہستہ آہستہ اس میں دودھ اور پسی ہوئی

پنیر ملا کر ہلائیں، یہاں تک کہ آمیزہ گاڑھا ہو جائے۔ پنیر کی یہ چلنی سبز یوں پر اندھیل دیں اور اوپر کا حصہ ویٹ جرم سے کور کر دیں۔ اور پر مکھن کے لیکے گائیں اور بغیر ڈھکے پکائیں یہاں تک کہ ویٹ جرم براؤن ہو جائے۔

آپ اپنی مرضی سے کوئی سی بھی سبزیاں ملا سکتے ہیں۔ تازہ اور چوپ کئے ہوئے ٹماٹر اور سبز پھلیاں ڈالنے کی کوشش کریں۔

وِجَيْبَلْ بَاتْ پَاتْ

۱۸ ماہ

گاجریں دو عدد
آلو تین عدد۔ کدو دو عدد
پیاز تین عدد
نمک اور کامل مرچ
ایک کپ پسی ہوئی پنیر
پسی ہوئی اجوائی خراسانی
تمین کپ چکن کا شور بہ
ایک کپ بادلے کی پھلیاں
پھلیوں کو رات بھر بھگو کر صحح ڈیڑھ دو گھنٹے تک ابالیں۔ سبز یوں کو دھو کر کاٹ لیں اور ان کی اوپر نیچے تہہ لگا دیں۔ اور شور بہ بھی ڈال دیں۔ بند ڈھکن والے برتن میں ڈال کر ابالیں، یہاں تک کہ سبزیاں گل جائیں۔ اور پسی ہوئی پنیر ڈال کر اروون میں رکھیں تاکہ پنیر پکھل جائے۔

۱۲ ماہ

ٹماٹر کی چلنی

۵۰۰ گرام چھیلے ہوئے ٹماٹر سرخ (کے ہوئے) ایک ٹیبل سپون اجوائیں

خراسانی

چنگلی بھر خشک صدر

۳۲ چچج آٹا (دیسی گندم کا)

ایک بڑی پیاز پتی ہوئی (حسب مٹا)

بہت سے نچے ہر چیز پر ٹماٹر کی چلنی ڈال کر کھان پسند کرتے ہیں چنانچہ گھرپہ

چلنی بنائیں۔ گھرپہ بنائی ہوئی چلنی مصنوعی رنگ سے محفوظ ہوتی ہے۔ میں نے اسے بزریوں، انڈوں اور گوشت کی ڈشوں کے ساتھ بہت لذ پذیریا ہے۔

پہلی پانچ چیزیں بلینڈر میں بلینڈ کر لیں۔ ٹماٹر اگر بلینڈ نہیں کئے تو انہیں اچھی طرح کچل لیں۔ بیچ زکانے کے لیے انہیں چھان لیں۔ اوون میں دس منٹ تک پکائیں۔

تیل یا مکھن کو گرم کر کے آٹے میں اچھی طرح مل لیں اس کو ٹماٹر کی چلنی میں ڈال لیں۔ آہستہ آہستہ شہد ملا کیں۔ آمیزہ گاڑھا ہونے تک چچج ہلاتے رہیں بیچ دار ڈھکلن وار لشیش کے جار میں ڈال کر فریج میں رکھ لیں۔

گندم کا حلوج ٹماٹر کی چلنی کے ساتھ

جمعہ کے روز چھٹی کے دن تھکی ہوئی ماوس کے لیے جو آسانی سے کھانا تیار کرنا چاہتی ہوں، اور غذا انتیت کے لحاظ سے بھی مطمئن رہنا چاہتی ہوں، گھرپہ حلوج تیار کریں۔ یہ بہت کم وقت میں تیار ہو جاتا ہے، ہیاتھ فوڈ سلور پر خالص گندم کا حلوج با آسانی مل جاتا ہے۔ پیکٹ پر لکھی ہوئی ہدایات کے مطابق پکائیں اور اس پر

یچے دی ہوئی چیزیں ڈال کر کھائیں۔

گندم کا حلوجہ ٹماٹر کی گھر پتے تیار کر دہ گرم چلنی کے ساتھ۔ اور پھر ہوڑی سی پسی ہوئی پیسیر ڈال لیں۔

گندم کا حلوجہ گائے کے گوشت کے قیچے اور ٹماٹر کی چلنی کے ساتھ یا گندم کا حلوجہ ٹماٹر کی چلنی اور کپکی ہوئی سبز پھلیاں۔

ربیث فوڈ

بڑے بچے جو ہر چیز کھانے سے انکار کر دیتے ہیں۔ عموماً چپس، کچی سبزیاں، ڈبوئے یا بغیر ڈبوئے کھانا پسند کریں گے۔ ایک پلیٹ میں مختلف کچی سبزیاں رکھیں۔ مثلاً بندگو بھی، گاجریں، کھمیاں، ٹماٹر، سلااد کے پتے، سبز اور سرخ مرچیں، کھیر، مٹر، سبز پھلیاں، بچوں گو بھی کے لئے وغیرہ۔

کچی سبزیوں کی ہم وزن مقدار کو گھر پہ تیار کرو ٹماٹر کی چلنی اور سادہ دہی میں ڈبو لیں۔ پنیر کو کچل کر اس کی کریم اور ٹماٹر کی چلنی میں سبزیوں کو ڈبو کر کھانا بہت پسند کیا جاتا ہے۔

کدو کش کی ہوئی گاجروں کو کشمکش میں ملا کر اوپر چھوڑ اس اسٹھد اور یمن جوں ڈال کر اس پر سلااد کے پتے گرمیوں کی مری ہوئی بھوک کو زندہ کر دیتے ہیں۔

سبزیوں کے ساتھ سلااد میں رکھ کر کھانوں کے درمیانی وقتوں (سنیک) کے لیے فرنچ میں رکھ لیں۔ جب بچوں کو رات کے کھانے سے پہلے بھوک لگے تو انہیں کھلا سکتے ہیں۔

سو یا بین اور لوہیا ایک سال سے کم عمر کے بچے کے لیے ہضم کرنا مشکل ہے مگر بڑے بچوں کے لئے یہ پروٹین مہیا کرنے کی لا جواب غذا ہیں۔ سو یا بین میں خاص طور پر گوشت کے برابر پروٹین پائی جاتی ہے۔ پھلیاں اور لوہیا منگلے بھی نہیں۔ سبز پھلیوں کو سٹور کر کے با آسانی پکایا جا سکتا ہے۔ گھننوں کے بل چلنے والے بچوں کو دوپہر کے وقت پھلیاں کچل کر دیں۔

پھلیاں پکانے کی بنیادی ترکیب

۵۰۰ گرام پھلیاں ایک چنکی اجوان

۲ کپ پانی یا کمی ہوئی سبز یوں کا بچا کھچا پانی

تیچ پات ایک پیاز پسی ہوئی (اگر پسند ہو)

رات کو پھلیاں بھگلو کر رکھیں۔ صبح ساری چیزیں ڈال کر بالیں یہاں تک کہ اچھی طرح گل جائیں، تقریباً دو گھنٹے پکائیں۔ سویا بین کو پکانے میں اور بھی زیادہ وقت درکار ہے۔

۱۲ ماہ

پھلیوں میں ٹماٹر کی چلنی

۵۰۰ گرام خشک پھلیاں ہم وزن گھر پہ تیار کردہ ٹماٹر کی چلنی

اوپر دی گئی ہدایت کے مطابق پھلیاں پکائیں جب گل جائیں تو اچھی طرح خشک کر کے ان میں ٹماٹر کی چلنی ملائیں۔ ورائی کرنے کے لیے جب پھلیاں گرم ہوں تو ان میں پسی ہوئی پنیر ملائیں۔

۱۵ ماہ

بھنی ہوئی سویا بین

۵۰۰ گرام سویا بین ۲ کپ ٹماٹر کی چلنی یا ٹماٹر کا گودا

ایک کپ پسی ہوئی پیاز (اگر پسند ہو) آدھا کپ سرسوں کا تیل
نمک حسب ذائقہ ایک بڑا چیچ شہد
پھلیوں کو رات بھر بھلوئے رکھیں۔ ابال کر گالیں۔ ایک فلکیم پروف ڈش میں
پیاز کو بھگار لیں۔ اس میں پھلیاں اور باقی بچا ہوا پانی ٹماٹر کی چلنی اور جھوڑ انمک
ڈال کر تیس منٹ تک پکائیں۔ اور پڑھکن نہ دیں۔ موڑ ریت اوون میں پکائیں۔

۱۲ ماہ

لو بیا اور ٹماٹر

۵۰۰ گرام لو بیا ۲ کپ ٹماٹر کی چلنی
ڈھانی کپ پانی
لو بیے کو ایک گھنٹہ پانی میں بھلوئیں پھرا سی پانی میں تیس منٹ تک پکا کر گلا
لیں۔ جب کپ جائے تو ان میں ٹماٹر کی چلنی اچھی طرح مکس کر لیں۔

۱۵ ماہ

لذیذ لو بیا

۵۰۰ گرام لو بیا آدھا کپ پسی ہوئی پیاز (اگر پسند ہو)
ڈھانی کپ پانی ۲ چیچ پسی ہوئی اجوائی خراسانی
ایک کپ چھیل کر کھلے ہوئے ٹماٹر۔
لو بیے کو ایک گھنٹہ بھلوئیں اور سی پانی میں گلا کیں پیاز کو جھوڑے سے تیل یا
مکھن میں بھگار لگا کیں اس میں ٹماٹر اور اجوائیں ڈال کر پکائیں اور انہیں کے

ہوئے لوئے میں ملائیں تین چار سال کے بچے کو ابلے ہوئے براؤن چاولوں کے ساتھ کھلائیں۔

(سب کے لئے)

انڈے

انڈوں کو ونڈر فود (WONDER FOOD) کہا جاتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے پروٹین، معدنیات، ویتامن اور سب سے بڑھ کر فولاد کے گھر ہیں۔ انڈے چھوٹے چھوٹے بچوں کی بہترین غذا ہیں۔ سادہ انڈے چھوٹے اور بڑے بچوں کی بہترین غذا ہیں۔ سادہ انڈے یا انہیں دوسری چیزوں میں ملا کر کھائے جاتے ہیں۔ یہ غذائیت سے بھر پور، زود ہضم ہیں۔ انہیں نہایت جلد اور آسانی سے پکایا جاسکتا ہے۔

انڈا کئی طریقوں سے پکایا جاسکتا ہے: انڈا البا جاتا ہے، فرانی کیا جاتا ہے اور اس کا آمیٹ بھی تیار کیا جاتا ہے۔ سجاوٹ کے طور پر اس کو الانے کے بعد باریک گول کلڑے کر کے سلاو پر لگایا جاتا ہے۔ اس کو پنیر اور چینیوں پر سجا�ا جاتا ہے۔ اسے فروٹ اور سبزیوں میں مکس کیا جاتا ہے۔ اسے پڈنگ اور میٹھی چیزوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اسے دودھ یا فروٹ کے جوس میں پھینٹ کر پیا جاتا ہے۔ مصروفیت کی وجہ سے تھکاوٹ کی ماری ہوتی رہتی ہے، سارا دن محنت کرنے والے باپ، بیمار یا مختتی بچے اسے کھا کر دوبارہ کام کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ انڈے دوسری غذاوں سے سستے ہیں۔

انڈوں کی کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس کا خول بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاس بلینڈر ہے تو انڈے ابال کران سے اترے ہوئے چکلکوں کو سنبھال کر کھیں۔ انہیں بے بی ملک کے ساتھ بلینڈ کر لیں یا انہیں جوس یا دہی ملا کر کھانے کی جگہ چھ ماہ سے اوپر گھٹنوں کے بل چلنے والے بچوں کو دیں۔ انڈے کا خول بہت زیادہ مفید اور کیا شیم حاصل کرنے کا ستاذ ریعہ ہے۔ یہ حمل اور دودھ پلانے والی ماوں کے لیے کیا شیم حاصل کرنے کا ستاذ ریعہ ہے۔ یہ حمل اور دودھ پلانے والی ماوں کے لیے کیا شیم حاصل کرنے فراہم کرنے کا ہم ذریعہ ہے۔ بس دودھ اور فروٹ کے ساتھ انڈے کے خول کو بلینڈر میں ڈال کر بلینڈ لیں تو آپ کی غذا انتیت کا سامان تیار ہے۔ تازہ انڈے خریدیں چاہے پوشی فارم سے یا دوکان سے جہاں تازہ انڈے نظر آتے ہوں۔

بچے کو انڈے سے متعارف کرنے کے لیے ڈاکٹر یا ہیلتھ سنٹر کی سفر سے مشورہ کر لیں کہ انہیں کس عمر میں غذا کے طور پر بچے کو دیا جائے۔ عام طور پر چھ ماہ کی عمر سے دینے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کیونکہ یہی وہ عمر ہے، جب پیدائشی سٹور کیا ہوا فولاد ختم ہونے کو ہوتا ہے اور بچے کے جسم کو فولاد کی ضرورت ہوتی ہے جسے انڈے کی زردی سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔ ابتداء میں بچے کو اچھی طرح پکی ہوئی انڈے کی زردی کھلانی چاہیے۔ عام طور پر تھوڑی پکی ہوئی سفیدی الرجی پیدا کرتی ہے لہذا احتیاط بر تیں۔ شروع میں چائے کے چوتھائی چیج کے برابر زردی دینی شروع کریں اور آہستہ آہستہ مقدار بڑھاتی جائیں۔ جلد ہی بچے بنانا ”ایگ ملک“ کی فرمائش کرنے لگیں گے۔

انڈے کی زردی

۶ ماہ

جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے کہ بہت چھوٹے بچوں کو اچھی طرح پکی ہوئی زردی بہت کم مقدار میں شروع کر سکیں اگر الرجی کا کوئی رعمل ظاہر نہیں ہوتا تو آہستہ آہستہ اس کی مقدار بڑھائیں یہاں تک کہ پوری زردی دینے لگیں۔ انڈے کی زردی کو نہایت نرم اور جلد نگلی جانے والی چیز میں ڈال کر دینا اچھا ہے۔ مثلاً آپ کیا کچل کراس میں زردی ملا سکتے ہیں، بزریوں کے بھرتے میں ملا سکتے ہیں، چاہے مسل کرو دھن میں ملا کر دیں۔ اسے وہی یا پانی میں بھی ملایا جاسکتا ہے۔ جب آپ کا بچہ انڈے کی پوری زردی کھانے لگے تو آہستہ آہستہ پکی ہوئی سفیدی بھی دینی شروع کر دیں۔ عام طور پر سفیدی سے بچے الرجال ہوتے ہیں۔ احتیاط سے اور آہستہ آہستہ دیں۔ وصیان رکھیں کہ یہ اچھی طرح پکی ہوئی ہو۔

سرخ انڈا

ابلے ہوئے انڈے کو لند بیڈ کر کے پیش کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے ابال اور چھیل کر ایک پیالے میں ڈال لیں اور اس میں ٹھوڑا سامنماڑ چھیل کر ڈال دیں۔ انڈے اور سامنماڑ کو کانٹے سے اچھی طرح ملائیں۔

۱۲ ماہ

انڈا تلنہ

ایک اندرا
ایک چیج مکھن
دودھ اور انڈے کو پیالی یا کپ میں پھینٹ لیں۔ مکھن کو ساس پین میں پھلا
لیں۔ انڈے کا آمیزہ اس میں انڈا میل کر چیج سے ہلا کیں تاکہ انڈا سیٹ ہو کر پھول
جائے۔ بہت سے بچے تلا ہوا انڈا اپنڈ کرتے ہیں۔ اسے مختلف کھانوں کی بیس
(Base) کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے۔ تسلی ہوئے انڈے کو ان چیزوں
میں علیحدہ یا ملا کر کھلایا جا سکتا ہے۔

ایک چیج ولائی پنیر
ایک چیج اجوان خراسانی
کدو کش کیا ہوا سبزیاں
ایک چیج خشک دودھ
چسپ

۹-۸ ماہ

انڈا ابا لانا

ایک چھوٹے ساس پین میں انڈا رکھ کر اسے ٹھنڈے پانی سے ڈھانپ دیں۔
تین چار منٹ تک ابا لیں۔ یہ انڈا کمکمل طور پر کپ جائے گا اور زرم بھی ہو گا یعنی
زیادہ سخت نہیں ہو گا۔

۹-۸ ماہ

انڈے کو پانی میں پکانا

ایک چھوٹے سے فرائی پین میں جھوڑا ساپاپنی ابال لیں۔ انڈا توڑ کر آہستہ سے پانی میں ڈال کر دو تین منٹ تک پکائیں۔ انڈے کو چھپے چج سے باہر نکال کر چھوٹے چھوٹے نکلے کر لیں۔

۱۲ماہ

فلپ ایگ

ان ماڈل کے لیے انڈے بڑی مصیبت ہیں۔ جن کے بچے انڈے کی زردی کھانا پسند نہیں کرتے۔ جب بچے پکا ہوا انڈا انہ کھائیں تو انہیں دودھ کو فائدہ ریں دودھ اور شہد کے ساتھ ملا کر دیں۔ کمزور، اکتائے ہوئے بچوں کو بھی انڈا دودھ میں ملا کر فائدہ ریں ڈال کر دیں۔

۱۲ماہ

بنانا ایگ ملک

ایک کپ دودھ

ایک انڈے کی زردی

ایک چج شہد

بڑے بچوں کے لیے سفیدی بھی ملائی جاسکتی ہے۔

ساری چیزیں بلینڈر میں اچھی طرح پھینٹ لیں اور انہیں بوتل یا کپ میں انڈیل لیں اگر آپ ملازمت کرتی ہوں، اور گھر دیر سے پہنچیں تو کھانے کے طور پر اسے جلدی سے تیار کر کے دیا جاسکتا ہے۔

پنیر ملا آمیٹ

۱۲ ماہ

ایک انڈا سفیدی اور زردی الگ کر لیں ایک چھپانی
ایک چھپسی ہوئی پنیر مکھن

پنیر، پانی اور انڈے کی زردی کو مکس کر لیں۔ انڈے کی سفیدی کو پھینٹ کر سخت کر لیں اور انڈے کی زردی کے آمیزے پر پھیلایا دیں مکھن کو پین میں پھلا لیں۔ اس میں پنیر اور انڈے کا آمیزہ ڈال دیں اور نیچے سے براؤن ہونے دیں۔ جب اس کی تہہ براؤن ہو جائے تو چند سیکنڈ گرل میں رکھیں تاکہ اوپر سے بھی سیٹ ہو جائے۔

انڈے کا کشڑڑ

۱۲ ماہ

ایک کپ دودھ
چند قطرے و نیلا یا ایک مکڑا دار چینی (اگر پسند کریں)

ایک انڈا

ساری چیزوں کا ملا لیں۔ ڈسینی آنچ پر آہستہ آہستہ ہلائیں یہاں تک کہ آمیزہ چمحے کے ساتھ چمنے لگے جلدی سے چولہے پر سے اتار لیں۔ اس کو گھٹلیاں بننے سے پچائیں اگر گھٹلیاں بن جائیں تو بلینڈر میں ڈال کر ٹھیک کر لیں اگر آپ مزید اکشڑ بنا چاہتی ہوں تو شہد اور و نیلا دار چینی نکال کر ان کی جگہ دو چھپ سبزیوں کا بھرتہ ڈال لیں۔

و تک بھیل کیک

۱۲ ماہ

بچی کچھی سبزیوں کو استعمال کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے۔ انہیں اچھی طرح مسل کر پھینے ہوئے انڈے میں اچھی طرح ملائیں۔ پھر انہیں پھٹلے ہوئے مکھن میں پین کیک کی طرح آہستہ آہستہ ہلاکا سا پکا لیں۔

بیل کی آنکھ

۱۵ ماہ

مکھن ایک انڈا

ایک دلیسی گندم کے آٹے کی روٹی گول سکٹ کڑیا چھوٹا سا گلاس استعمال کریں اور روٹی کو درمیان سے گول کاٹ لیں۔ اس کے آگے چھپے مکھن لگا کر فرائی پین میں ڈالیں۔ انڈے کو بڑی احتیاط سے روٹی کے درمیان میں توڑیں اور انڈا سیٹ ہونے تک پکائیں۔

انڈا فرائی کرنا

۱۵ ماہ

مکھن ایک چج

انڈے کو چربی وغیرہ میں بالکل نہ پکائیں یہ جلد ہضم نہیں ہوتا۔ بس مکھن پکھائیں اور انڈا سیٹ ہونے تک پکائیں۔ بہت زیادہ تیز آگ پر نہ پکائیں اس سے سفیدی ختم ہو جاتی ہے۔ ذائقہ تبدیل کرنے کے لیے سفیدی پر پسی ہوئی پنیر

یا اجوائے خراسانی چھڑک دیں۔

۲ سال

ہمپٹی ڈپٹی

دو بڑے چھ بڑا قیمه	۳ بڑے چھ بڑے چھ آٹا
پسی ہوئی اجوائے خراسانی	ایک کچا انڈا (پھینٹا ہوا)
۳ بڑے چھ گھنی یا تیل	۳ بار ڈبو انڈا نڈے
اجوائے اور قیمه مکس کر لیں۔ ابلے ہونے انڈے چھیل کر ایک برتن میں ڈال	لیں۔ انہیں قیمے سے ڈھانپ لیں یعنی انڈوں کے اوپر قیمے کی شکل بھی انڈوں
جیسی بنالیں۔ اب ان ڈھانپے ہونے انڈوں کو آٹے میں ڈبوئیں پھر انہیں گرم	تیل یا گھنی میں ڈبوئیں۔ گرم گھنی یا تیل پر پانچ منٹ تک پکائیں۔ پھر کچن پیپر پر
تیل کو اچھی طرح نچڑ جانے دیں۔ کھلانے کے لیے لمبائی کی طرف سے دو دو	ٹکڑے کر لیں۔ لوگ انہیں پکنک وغیرہ پر ساتھ رکھ لیتے ہیں۔

۲ سال

پنیر سفلے

آدھا چھ نمک	۶ انڈے (سفیدی اور زردی الگ کر لیں)
۲ کپ دودھ	۳ بڑے چھ گندم کا آٹا
۲ کپ پسی ہوئی پنیر	اوون کو پہلے ہی سے گیس مارک 2 (300F) پر گرم کر لیں۔ مکھن کو

ساس پین میں پچھا لیں۔ اس میں آنالاکر بھونیں۔ آہستہ آہستہ اس میں دودھ ملاتے جائیں اور آمیزہ سخت ہونے تک چیخ ہلاتے جائیں۔ اچھی طرح پھینٹی ہوئی انڈے کی زردی ملائیں۔ پنیر اور نمک ڈال کر دھیمی آنچ پر آمیزے کو گاڑھا کر لیں۔ اس میں انڈے کی سفیدی ڈال دیں۔ مکھن لگی ڈش میں انڈیل کر گیس مارک 2 (300F) پر ایک گھنٹہ تک پکائیں۔ جب پک جائے اور اوپر کا حصہ گولڈن براؤن ہو جائے تو اتار لیں۔

اگر چہا سے تیار کرنے میں کچھ وقت ضرور لگتا ہے مگر بچے اسے بہت شوق سے کھاتے ہیں۔

گوشت اور مچھلی

شروع میں بڑے بچوں کے لئے

جب بچے فروٹ، دہی، اجناس، سبزیوں، انڈوں اور انڈے کی زردی وغیرہ کا ذائقہ سمجھنے لگتے ہیں۔ تو اس کے فوراً بعد ہی انہیں گوشت اور مچھلی سے متعارف کرایا جاتا ہے، اگر بچہ پہلے سے ہی پروٹین اور فولاد سے بھر پور غذا میں کھا رہا ہے تو گوشت دینے کی کوئی اتنی جلدی نہیں۔ ڈاکٹر سے مشورہ لے لیں۔

میرے نزدیک سب سے پہلے بچے کو سفید گوشت سے متعارف کرنا بہتر ہے۔ چکن کا سینہ پانی میں گلا کر شور بہنا لیں۔ شور بے کمزیدار بنانے کے لئے دہی ڈالا جاسکتا ہے۔ اور دودھ ڈال کر بھی شرب بے گاڑھا کیا جاسکتا ہے یا سبزیوں کا پانی ڈال کر بالا دے کر اتار لیں۔ سرخ گوشت کی بجائے کلیجی کو ہضم کرنا زیادہ آسان ہے۔ اس میں پروٹین اور فولاد کثرت سے پایا جاتا ہے، ویسے بھی اس میں ہڈی یا چربی نہ ہونے کی وجہ سے اس کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوتی۔ گوشت کے مقابلے میں کلیجی سستی ہے۔ چھوٹے بچوں کو گوشت میں سب سے پہلے مفرز دیں۔ اس کی زمی کی وجہ سے بچے کو کھانے میں کوئی دقت محسوس نہیں ہوتی۔

سفید گوشت کے بعد کلیجی اور مفرز، سرخ گوشت۔ گائے اور بھیڑ کا گوشت دیں۔ آپ بچے کو وہی گوشت دے سکتے ہیں جو گھر میں سب کے لئے پکتا ہے۔

بھنے ہوئے گوشت کے ٹکڑے نہایت باریک کر کے کپی ہوئی سبز یوں کا پانی ملا کر دیں۔ بچے زیادہ مصالحہ دار غذا کمیں پسند نہیں کرتے۔ اس کے لئے آپ کو کچھ انتظار کرنا پڑے گا۔



چکن

سارے گھر کی مرغوب غذا ہے۔ اسے بچے، بڑے سب ہی پسند کرتے ہیں۔ اسے تیار کرنا اور پکانا آسان ہے۔ مصروف ماوں کے لئے یہ بات بہت مفید ہے۔ اس کی کھال، سر اور پیہرا تاریں اور یہ پکانے کے لئے تیار ہے (پیٹ چاک کر کے اندر کی ساری غلافات وغیرہ نکال دیں) اور اچھی طرح صاف کر لیں۔ اسے بزریوں میں بھی پکایا جاسکتا ہے۔ سادہ طریقے سے مصالحے میں گاڑھے شور بے کے ساتھ بنا کر کھائیں۔

چکن کا شوربہ

۱	لکڑیاں دار چینی	ایک بڑا بو انگ چکن
۲	گاجریں	کپ پانی
۳	نمک حسب ضرورت	پیاز۔ پیسی ہوئی اجوان خراسانی

پیسی ہوئی نیاز بول کے پتے

کھال اتار کر گوشت کے مکڑے کر لیں۔ چکن، سبزی اور اپنی کو ایک بڑے ساس پین میں ڈال کر تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ اب لیں اور ٹھنڈا کر لیں۔ شوربہ اچھی طرح نچوڑ کر آدھا فرنج میں رکھ لیں اور آدھا آنس کیوب میں ڈال کر فریزی میں رکھ لیں۔ اس شوربے (یعنی پانی) کو گوشت میں شوربہ گاڑھا کرنے کے لیے استعمال کیا جاسکتا ہے۔ اسے سبزیوں میں ڈال کر ان کی غذائیت میں اضافہ کیا جاسکتا ہے۔ جب شوربے کو دوبارہ گرم کریں تو اس میں ایک نو ڈل ڈال کر چکن نو ڈل سوپ بنالیں۔ اس میں قدرتی براؤن چاول پکالیں۔ سوپ کو اور اچھا بنانے کے لئے سبزیاں اور پکے ہوئے چکن کے مکڑے ڈال دیں۔

اگر شوربہ بہت چھوٹے بچوں کو دینا ہو تو پیاز اور نمک نہ ڈالیں۔

۶ ماہ

چکن پوری

اجوان	ایک چکن بریسٹ
-------	---------------

ایک کپ چکن کا شور بے یا پانی
چکن کی کھال اتار لیں۔ اسے اچھی طرح بند ساس پین میں ڈال کر شور بے یا
پانی اور اجوانن میں پکائیں۔ چکن نکال کر اس کا گوشت ہڈیوں سے اتار لیں۔
گوشت کو بلینڈر میں ڈال کر اس میں شور بے ڈالیں اور اس کا مکپھر بنالیں۔
بچے کے لئے فیملی روٹ سے بچے ہوئے چکن کے نکڑوں کو فریز کئے ہوئے
چکن شور بے میں ملا کر چکن پوری تیار کی جاسکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس شور بے بچا
ہوا نہیں ہے تو چکن کے نکڑوں میں دودھ، پانی، سیب کا جوں اور دہی بھی ملا کر لذیذ
چکن پوری تیار کی جاسکتی ہے۔ اگر آپ فیملی روٹ گوشت استعمال کر رہے ہیں تو
چکنا پیس استعمال کریں۔

چکن سبزی

آدھا کپ چکن پوری
چوتھائی کپ پکائے ہوئے مٹر

چوتھائی کپ کچلا ہوا کدو
ساری چیزوں کو ملا کر ان میں چھوڑ اسافال تو چکن شور بے یا دودھ ملا لیں۔ اور
بچے کو کھلانے میں۔

چکن پانی

۶ ماہ

اپل چکن

ایک کپ چکن پوری
آ دھا کپ، پکے ہوئے، سکھے ہوئے میٹھے آ لو
ایک چھوٹی اون پروف ڈش میں چکن لگائیں۔ اس میں چکن پوری ڈالیں
اور اوپر کچلے ہوئے میٹھے آ لو ڈال دیں۔ ان پروفیٹ جرم ڈال کر پکائیں۔ اوپر
ڈھکن نہ دیں۔ موڑ ریٹ اون میں پکائیں یہاں تک کہ آ لو براؤن ہو جائیں۔

ماہ

ایک چکن بر سٹ
ایک سرخ سیب، چھیل کر بچ نکالیں
اپل جوں میں چکن اور کٹے ہوئے سیب ڈال کر زرم کر لیں۔ چھوٹے بچوں
کے لئے یہ ساری چیزیں بلینڈر میں ڈال کر پیس لیں۔ بڑے بچوں اور دوسراے
افراد کے لئے کانٹے سے کپل لیں۔ اپل چکن خاص طور پر قدرتی براؤن چاول
اور مرکے ساتھ کھانے میں بہت ذائقہ دیتے ہیں۔

ماہ

دم پختہ چکن

ایک چکن بریسٹ	اٹھاڑ (چھیلا ہوا)
ایک کپ چکن کا شورہ	اجوان خراسانی
ایک آلو	ایک گاجر

چکن سے کھال اتار کر ہڈیاں الگ کر لیں۔ ساری چیزوں کو بند ڈھکن کے ساس پین میں ڈال کر تیس منٹ تک پکائیں۔ اسے زم کرنے کے لئے تھوڑا سا پانی ڈال لیں۔ بڑے بچوں کو گوشت اور سبزی الگ الگ دیں۔ اوپر تھوڑا سا شور بہ ڈال کر گھول لیں۔ اس شور بہ کو دو تین چھوٹے ڈبوں میں یا آنس بلاک ٹرے میں ڈال لیں۔

۱۲ ماہ

اور نج چکن

۲ چکن کی ٹانگ میں اور سینہ آدھا کپ اور نج جوس
چنکلی بھرنمک اجوائیں خراسانی (پسی ہوتی)
ٹیبل سپون گھلا ہوا مکھن
چکن کی کھال اتار لیں۔ مکھن لگی بیکنگ ڈش میں ڈال دیں۔ اس پر نمک اور
اجوائیں چھڑ کیں۔ پھر ہونے مکھن کو اور نج جوس میں ملا کر چکن پر انڈیل دیں۔
آدھ پون گھنٹے تک موڑ رہت اوون میں پکائیں۔ کبھی کبھی پانسہ بدل دیں تاکہ
جوس اچھی طرح مکس ہو جائے۔

۱۲ ماہ

خستہ چکن

۳ چکن کے سینے آدھا کپ ویٹ جرم یا روٹی کے خشک
ٹکڑے

ایک اندرا (پھینٹا ہوا)

چکن کے سینے کو اندرا اور ویٹ جرم میں ڈبو دیں۔ چکن کی ناگلوں کو گریس لگے ہیلگ ٹرے یا ایلومنیم ٹرے میں ڈال کر جھوڑا سماں میں لگا کر تقریباً تیس منٹ تک پکائیں۔ بچوں کو پکڑانے کے لئے ٹھنڈا کر لیں۔ بچوں کو خود کھانا سکھانے کے لئے دانت نکالنے والے بچوں اور گھننوں کے بل چلنے والے بچوں کے ہاتھ میں پکڑائیں۔

بھرا ہوا چکن ۲۳-۵ سال

بھرنے کا مصالحہ
بڑے چھپ مکھن

چوتھائی کپ ویٹ جرم
چٹکی بھرنمک

۲۵ گرام دیسی گندم کا آٹا
ٹھنڈا پانی

آٹے اور نمک کو ملا لیں۔ اس میں مکھن ڈال کر ملیں۔ ٹھنڈا پانی ملا کر سخت آٹا گوندھ لیں۔ تیس منٹ فرتیج میں رکھنے کے بعد ۲۳ سینٹی میٹر کے ٹکڑے کاٹتے جائیں۔

FILLING فلنگ

آڈھا پاک ہوا چکن
۳ اندرا پھینٹے ہوئے

ڈیرہ کپ زم دیسی پنیر
ڈیرہ کپ دودھ

پسی ہوئی مرچ حسب ضرورت آدھا چیج نمک

چکن کو اوپر والے آمیزے کے اندر رکھیں۔ اندے، دودھ اور نمک کو ملا کر چکن اور پنیر کے اوپر انڈیل دیں۔ تمیں منٹ تک گیس مارک 190C (375F), 5 پر پکائیں یا اتنی دیر تک کہ چاقو اندر ڈال کر صاف باہر نکل آئے۔ اتار کر کھلانے سے قبل دس منٹ تک پڑا رہنے دیں۔ دو پھر کے کھانے میں نکلوئے کر کے تھنڈا ہی کھانا بہت لذیذ لگتا ہے۔

محچلی

محچلی کا گوشت چھوٹے اور بڑے بچوں کے لئے بہت مفید ہے۔ کیونکہ اسے چبانا اور ہضم کرنا بہت آسان ہے۔ اس کی کھال باریک ہوتی ہے اور اس پر زیادہ چربی بھی نہیں پائی جاتی۔ محچلی و نامن سے بھر پورا وغذا ایت میں ضروری آیوڈین، فاسفورس اور یونیشیم جیسے معدنیات سے مالا مال ہے۔

باکل تازہ محچلی خریدیں۔ اگر اس سے بو آئے تو یہ باری محچلی ہے۔ اس کی آنکھیں چمکدار اور کھال سخت ہونی چاہیئے۔ محچلی والے سے کہیں کہ محچلی کے قتلے کر دے کیونکہ قتلوں میں کانوں کا احتمال کم ہوتا ہے۔ یہ بچوں کے لئے اچھے رہتے ہیں کیونکہ ان میں گوشت زیادہ اور کانٹے کم ہوتے ہیں۔ محچلی کا چھانعم البدل ڈبے کی ٹونا اور سالمون کی خشک محچلی ہے۔ تاہم یہ محچلی بچوں کو نہ دیں کیونکہ ان میں ضرورت سے زیادہ نمک لگا ہوتا ہے۔ محچلی کو زیادہ نہ پکائیں یہ ذرا کھڑی

کھڑی ہونی چاہئے۔ زیادہ کپی ہوتی مچھلی بے ذائقہ ہو جاتی ہے۔

مچھلی بچوں کو دیتے وقت کانٹوں کو بار بار چیک کر لیں۔ اسے اپنے پوروں میں بار بار دباؤ کر مسلیں کہ کہیں کوئی کانٹا مچھلی میں نہ رہ جائے۔ اگرچہ مچھلی بہت مہنگی پڑتی ہے مگر یہ بہت اہم ہے۔ اس کی کوئی چیز ضائع نہیں جاتی لہذا اسے اپنے گھروالوں کو باقاعدگی سے کھلانیں۔

پکائی ہوئی مچھلی

کے ماہ

ایک تکڑا کا ڈمچھلی (کانٹوں کے بغیر) آدھا دودھ یا سبز یوں کا پکایا ہوا پانی

ایک چھپ مکھن

دودھ، مچھلی، اور مکھن کو ساس پین میں ڈال دیں اور پڑھکن دے کر تقریباً دس منٹ تک پکائیں کہ مچھلی کانٹے سے با آسانی تکڑے کھلائے ہو سکے۔ بچے کے لئے مچھلی اور دودھ بلینڈ کر لیں۔ کھلانے سے پہلے کانٹے اچھی طرح چیک کر لیں۔ بڑے بچوں کو مچھلی کے تکڑے کر کے تھوڑے سے دودھ کے ساتھ کھلانیں۔ کھلانے سے پہلے کانٹے اچھی طرح نکال لیں۔

سلیم فرش

کے ماہ

ایک پیس کا ڈمچھلی (کانٹے نکال لیں) آدھا کپ دودھ یا سبز یوں کا

پانی

پسی ہوئی اب وائے خراسانی

ساری چیزیں ایک پیالے میں ڈال دیں پھر لے پیالے میں پانی ڈال لیں یا
ڈبل ساس پین استعمال کریں۔ ڈھکن دے کر پکائیں یہاں تک کہ مجھلی گل
جائے۔ بچے کو دینے سے پہلے کانتے اچھی طرح چیک کر لیں۔

نیش کسٹرڈ

ماہ ۸

ایک پیس کا ڈھجھلی (کانٹوں کے بغیر) ایک کپ پھیکے انڈوں کا کسٹرڈ
مجھلی کو بھاپ دے کر پکائیں۔ کانتے اچھی طرح چیک کر لیں۔ کسٹرڈ اور
مجھلی کی پوری بنالیں۔ بچوں کے لئے مجھلی کو کانتے سے کچل کر اس پر کسٹرڈ ڈال
دیں۔

پھیکے انڈوں کا کسٹرڈ

۲ کپ دودھ

دودھ اور انڈوں کی زردی ملا کر چینٹ لیں اسے ہلکی آنچ پر رکھ کر مسلسل اور
آہستہ آہستہ ہلائیں یہاں تک کہ کسٹرڈ تیار ہو جائے۔ فوراً آنچ سے اتار لیں۔
بندوں بے میں ڈال کر فر صح میں رکھ لیں۔

مچھلی کے کیک

۱۲ ماہ

۲ کپ مچھلی کے نکڑے یا ڈبے کی ٹونا مچھلی ایک چھپ پسی ہوئی اجوائیں
 ایک کپ پسے ہوئے آلو ایک انڈا پھینٹا ہوا
 ویٹ جرم کے علاوہ ساری چیزیں ملائیں۔ ساری چیزیں کے آمیزے سے
 چھوٹے چھوٹے بال بنا لیں اور انہیں ویٹ جرم پر ملیں۔ دس منٹ تک مکھن گئی
 اون پروف ڈش میں ڈال کر پکائیں یا تیل میں پکائیں اور بڑے بچوں کے لئے
 براؤن کر لیں۔

فشن فینسی

۱۵ ماہ

ایک بڑا ڈبے سالمیں یا ٹونا مچھلی پون کپ سفید چلنی^{۲۵}
 ۲۵ گرام ٹماٹر چھیل کر نکڑے کر لیں ایک لیموں کا جوں
 ایک کپ روٹی کے نکڑے ایک کپ پسا ہوا ہوا زرمدی کی پنیر
 مچھلی کو مسل کر کانٹے نکال لیں۔ مچھلی اور لیمون کے جوں کو مکھن گئی اون
 پروف ڈش میں ڈال دیں۔ روٹی کے آدھے نکڑے سفید چلنی اور ٹماٹر کی تہہ اور پر لگا
 دیں۔ باقی کے نکڑوں سے انہیں ڈھانپ کو اوپر پنیر لگائیں اور موڑ رہیت اون
 میں بیس منٹ تک پکائیں۔

ٹونامورنے

۱۵ماہ

آ لو آ دھاکلو (پا کر پیسے ہوئے)	ایک بڑا اڈ بُونا
ایک کپ پسی ہوئی پنیر	ہارڈ بوانلڈ انڈے
ایک کپ سفید چلنی دیسی پنیر ملی	ایک کپ کے ہوئے مثر ہوئی

میں نے دیکھا ہے کہ ہر کوئی اس غذائیت بھرے کھانے کو پسند کرتا ہے۔ ٹونا کو نچوڑ کر پانی اچھی طرح خشک کر لیں اور مکھن گلے کیسی روں میں ڈال دیں۔ اس میں مثر، آدھے انڈے اور سفید چلنی ملائیں، اوپر سے مسلے ہوئے آلوں سے ڈھانپ دیں اور سب سے اوپر پنیر لگا دیں۔ موڈریٹ اور ورن میں بیس منٹ تک پکائیں۔

آپ اس مورنے میں دوسری بہت سی چیزیں بھی ڈال سکتے ہیں۔

محچلی پکانا

۱۸ماہ

ایک محچلی کے نکلے (گنیاں)	تمور اس انگک
۳ چھلے ہوئے آلوں کے باریک کتلے	اجوان (پسی ہوئی)
ایک چھوٹا میٹ جرم	چچھ مکھن
ایک چھوٹا پسی ہوئی پنیر	چند قطرے یمن جوس
محچلی کو ایلو مینیم کے چوڑے برتن میں ڈال دیں۔ یہ برتن اتنا بڑا ہونا چاہیے کہ	

ڈھلن دیتے وقت ساری مچھلی اس میں کور ہو جائے۔ مچھلی پر نمک اور لیمن جوس چھڑ کیں اور پٹمناٹر کی چنی ڈال دیں۔ پھر پنیر اور ویٹ جرم کو مکس کر کے ڈالیں۔ اس پر اجوان کن اور مکھن کے بلکڑے ڈال دیں۔ پھر ڈھلن دے کر کنارے اچھی طرح سیل کر دیں۔ موڑ ریٹ اون میں پکائیں۔ بچے کو کھلانے سے پہلے کانٹے اچھی طرح دیکھ لیں۔

فشنگر

۱۸ ماہ

۵۰۰ گرام مچھلی ویٹ جرم یا کارن میل

ایک یادو انڈے (چینے ہوئے)

مچھلی کے انگلی جتنے لمبے بلکڑے کاٹ لیں۔ انہیں انڈوں میں ڈبو دیں پھر ویٹ جرم لگائیں۔ ایک گھنٹہ فرتیج میں رکھیں۔ اس سے انڈا اور ویٹ فرم کی تہہ کپی ہو جائے گی۔ حموڑ سے بزریوں کے تیل میں پکائیں۔ ایک آدھ مرتبہ پلٹیں تاکہ سڑنہ جائے اور اچھی طرح پک جائے۔

گلچی

کلیجی پھوں کے لئے غذائیت سے بھر پور کھانوں میں سب سے اعلیٰ خواراکوں میں سے ایک ہے۔ اس میں قدرتی فولاد کی فراوانی، وافر مقدار میں پروٹین، ونامن لی اور معدنیات پائے جاتے ہیں۔ دراصل کلیجی، پھوں کے گوشت سے

زیادہ غذا نیت بخش ہے۔ بچے اسے آسانی سے ہضم کر لیتے ہیں۔

شاید لوگ اسے پکانے سے واقفیت نہیں رکھتے اور اسے ضرورت سے زیادہ پکا دیتے ہیں، اس لیے زیادہ تر لوگ پھر اسے پسند بھی نہیں کرتے۔ اگر آپ اسے پسند نہیں کرتے تو اپنی نہ پسندیدگی کا اظہار بچوں کے سامنے نہ کریں۔ وہ آپ کے احساسات کو بہت جلد سمجھ لیں گے۔ اپنے گھروالوں کو کلیجی پیش کرتے وقت چہرے پر مسکراہٹ لائیں اور آپ دیکھیں گے کہ وہ اسے پسند کرنے لگیں گے۔

کلیجی کو جب فروٹ کے ساتھ پکایا جائے تو یہ بہت مزادیتی ہے۔ بچے کلیجی اور اور نجی یا کلیجی اور سیب کو بہت پسند کرتے ہیں اگر چہ آپ کے گھروالے اس پسند نہیں کرتے مگر نیچے دیے ہوئے طریقوں سے کمی ہوئی کلیجی آپ کھائے بغیر نہیں رہ سکتے۔

کلیجی پکانے کا طریقہ۔ ۱

۲۵ گرام بکرے یا چکن کی کلیجی آدمی گاجر باریک کٹی ہوئی

ایک ٹھاٹر (چھاہوا) پون کپ پانی

آدھا آلو کدو کش کیا ہوا

آٹھ دس منٹ تک کلیجی اور سبزیاں پانی میں ڈال کر دھیمی آٹھ پر پکائیں۔

سبزیوں اور کلیجی کو بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کر لیں۔ ضرورت محسوس ہو تو ساتھ ساتھ پکا ہوا پانی بھی ڈالتے جائیں تاکہ کیسانیت سے سب چیزیں مل

جا کیں۔ اچھی طرح ملائیں کے بعد پیش کریں۔

۱۲ ماہ

کلیجی پکانے کا طریقہ - 2

۵۰۰ گرام چکن کلیجی

نمک اور مرچ حسب ذائقہ
ہارڈ یوائلڈ انڈے

۲ سفید پیاز

پیاز کو کاش کر مکھن میں سرخ کر لیں۔ پیاز مکھن سے نکال کر بلینڈ کر لیں۔ کلیجی اچھی طرح صاف کر کے اسے مکھن میں اتنا تملیں کہ درمیان سے جھوڑی جھوڑی گلابی ہو جائے۔ تقریباً دو یا تین منٹ تملیں۔ کلیجی کو پیاز کے ساتھ ہی بلینڈر میں ڈال دیں اور انڈے بھی ڈال کر سب چیزیں بلینڈ کر لیں۔ ایک ڈش میں ڈال کر ٹھنڈا کر لیں۔

یہ بہت جلد پک کر تیار ہو جاتی ہے اور مزید اربھی بہت ہوتی ہے۔ اسے بچے، بڑے سب کھاسکتے ہیں۔ جب مہمانوں کو پیش کریں تو اس پر اجوائیں، انڈے کی زردی اور مصالحہ ڈال لیں۔

ماہ

دسمبر کلیجی

۲۵۰ گرام بھیر کی کلیجی

ایک آلو (کدو کش کیا ہوا)

ایک گاجر

آڈھی سفید گاجر

پہلے آپ کلیجی کا قیمه بنالیں۔ سبزیوں کو پانچ منٹ تک پانی میں پکائیں۔ ان میں کلیجی ڈال کر پانچ منٹ اور پکائیں۔ ۹ ماہ کے بچے کے لئے ساری چیزیں پکا کر دیں۔ بڑے بچوں کو کلیجی اور سبزیاں الگ الگ دے سکتے ہیں۔ بہت چھوٹے بچوں کو، جو چیز کو چبانہ میں سکتے، ساری چیزیں نہایت احتیاط سے کچل کر دیں۔

چکن کلیجی کا سوپ

کے ماہ

۲ عدد چکن کی فچیاں

آدھا کپ دودھ

چکنی بھرنمک

ایک ٹبلیں سپون چاول

کلیجی، چاول، نمک اور پانی کو اکٹھا پکا کر زرم کر لیں۔ تھوڑا ساٹھنڈا کر کے ایک منٹ تک بیینڈ کریں اس میں آدھا کپ دودھ ملا کر دوبارہ پکائیں۔

کلیجی اور سیب - ۱

کے ماہ

۵۰۰ گرام چکن کلیجی

ایک کپ سیب کا جوس

۲ بڑے سیب

سیب کو چھیل کر کاٹ لیں۔ انہیں جوس اور کلیجی کے ساتھ ساس پین میں ڈال کر اچھی طرح گالا لیں۔ ۹ ماہ کے بچوں کے لئے اسے اچھی طرح کچل لیں یا بیینڈ

کر لیں۔

کلیجی اور سیب - 2

۵۰۰ گرام چکن کلیجی
برڑے سرخ سیب
کلیجی دھولیں۔ سیب چھیل کر کاٹ لیں، انہیں لمبھن میں اکھاٹل لیں یہاں
تک کہ سیب اور کلیجی دونوں گل جائیں پھر سیب کا جوس ملا دیں اور اتنی دری پکائیں
کہ کلیجی اور سیب پک کر نرم ہو جائیں۔

ویٹ جرم میں کلیجی

۵۰۰ گرام پھرے کی کلیجی
دیسی گندم کا آٹا
انڈا (پھینٹا ہوا)
کلیجی کو دھو کر قیمه بنالیں اور اسے انگلیوں میں مسلیں۔ اسے آٹے، انڈے اور
ویٹ جرم میں ملائیں پھر تیل میں پکائیں۔

لیور فنکر رز

کلیجی کے لمبے نکلاے بچے کی انگلیوں میں تھمانے کے لئے بہت اچھے رہتے
ہیں۔ بچے انہیں اپنے ننھے منے ہاتھوں میں تھام کر آسانی سے چوں سکتے ہیں۔

۱۰ ماہ

نچھڑے یا بھیڑ کی کلیجی اس مقصد کے لئے بہت اچھی ہے۔ پوری کلیجی خریدیں۔ اس کے انگلی جتنے لمبے نکلاے کاٹ لیں۔ انہیں الگ الگ رکھ کر فریز کر لیں یہ فوراً تیار ہو سکتے ہیں۔ انہیں آپ انگاروں پر پا سکتے ہیں۔ جھوڑے سے تیل یا گھنی میں سرخ کر کے بچ کو دیں وہ بڑے شوق سے کھائے گا۔

ماہ ۱۲

اورنج کلیج

ایک بڑا اورنج ۶۰۰ گرام کمکن یا تیل
۴ چھچھ ویٹ جرم نمک اور مرچ (بڑے بچوں کے
لئے)

۵۰۰ گرام نچھڑے کی کلیجی اورنج کو اچھی طرح مسل کراس کا جوں نکال لیں۔ نمک اور مرچ ڈالیں۔ کلیجی کو چھوٹے چھوٹے نکلوں میں کاٹ لیں۔ اس پر ویٹ جرم ڈال دیں۔ کسی موٹے پین میں کمکن یا تیل گرم کر لیں۔ اور اس میں کلیجی اچھی طرح پکائیں۔ پلیٹ میں ڈال لیں، اور نج سے جوں نکال کر پین میں ڈال دیں اور گرم کریں۔ جوں کو کلیجی پر ڈال کر پیش کریں۔ اور نج کلیجی کے ساتھ ابلے ہونے آ لو پیس کر کھانے میں بہت اچھا ذائقہ دیتے ہیں۔

مغز

مغز کا پکانا نہایت آسان ہے کریمی ساس کے ساتھ اسے بچے بے حد پسند کرتے ہیں۔

بھیڑ کا مغز

آدھا کپ دودھ یا شور بہ
مغز کو کئی گھنٹوں تک ٹھنڈے پانی میں بھگوئیں۔ اس کے کالے نشان وغیرہ
نکال دیں۔ ساس پین میں ڈال کر اتنا پانی ڈالیں کہ مغزاں میں ڈوب جائے اس
منٹ تک پکائیں مغز نکال کر دودھ یا شور بہ کے ساتھ ملینڈ کر لیں۔

کرکیم ساس میں مغز

۶ مغز (بھیڑ یا بچھڑے کا)	ایک چھ مکھن
ایک کپ دودھ	ایک چھ دیسی گندم کا آٹا
مغز کو کئی گھنٹوں تک ٹھنڈے پانی میں بھگوئیں۔ کالے نشان اور دھاگے وغیرہ نکال لیں۔ مغز کو پانی میں ڈبو کر دس منٹ تک پکائیں۔ ایک ساس پین میں مکھن پکھا کر کرکیم ساس بنالیں۔ اور پآنا اور آہستہ آہستہ دودھ ملا کر ہلاتے جائیں یہاں تک کہ ساس گاڑھی ہو جائے۔ مغز کے چھوٹے چھوٹے نکلے کر کے ساس میں ملا دیں۔	

بچھڑے کا گوشت اور ٹماٹر

۱۸ ماہ

ٹماٹر چھیل کر مسلا ہوا
آدھا کپ شور بے یا پانی

بچھڑے کے گوشت کا ایک چھوٹا نکلا

گوشت کے لمبے نکلاے کر کے ٹماٹر اور شور بے (پانی) میں پا کر گلا لیں۔ اسے تقریباً میں منٹ تک پکائیں۔ بچوں کو دینے کے لئے ساری چیزیں اکٹھی پکانے کے بعد بلینڈ کر لیں۔ بچے یہ نکلاے ہاتھ میں پکڑ کر کھانا بہت پسند کرتے ہیں۔

گوشت اور لیموں

۱۲ ماہ

چوتھائی لیموں کا جوں
گوشت کے لمبے نکلاے

چھوڑ اسماں

گوشت کے نکلاے چند منٹ تک مکھن میں بھون کر سرخ کر لیں۔ پکاتے وقت لیموں کا جوں چھڑک لیں۔ جب گوشت بادامی رنگ کا ہو جائے تو یہ تیار ہے۔

گوشت کے نکلاے ویٹ جرم میں

۱۵ ماہ

دیسی گندم کا آٹا
گوشت کے نکلاے

چھوڑے سے دودھ میں ایک انڈا (پھینٹا ہوا)
ویٹ جرم

لیمن جوں

گوشت کے لمبے نکلوں کو آٹے اور پھر انہے میں ڈبوئیں۔ پھر ان پر ویٹ جرم کا اچھی طرح کوٹ کریں۔ تیل کو فرانی پین میں گرم کریں اور نکلوں کو اس میں سرخ کر لیں۔ ہر سالہ تقریباً پانچ منٹ تک پکائیں۔ پیش کرنے سے پہلے لیمن جوں چپڑک دیں۔

چھڑے اور بھیڑ کا گوشت

یہ دونوں قسموں کے گوشت بچے کو سب سے آخر میں دیں کیونکہ انہیں ہضم کرنا مشکل ہے۔ یہ سفید گوشت کی نسبت نگلنے میں بہت زیادہ سخت ہیں۔ جب آپ پہلی مرتبہ چھڑے یا بھیڑ کا گوشت دیں تو انہیں بہت اچھی طرح پکائیں اور پھر بلینڈ کر کے اسے زم کر لیں۔ جب سارے گھر کے لئے گوشت روست کریں تو کچھ بوٹیاں نکال کر گوشت یا سبز یوں کے شوربے میں بلینڈ کر لیں۔ بلینڈ کرنے سے پہلے چربی اور ہڈیاں نکال دیں۔

ہڈی کا نکلا اونٹ نکالنے والے بچوں کے ہاتھ میں پکڑائیں۔ وہ دانتوں کی تکلیف سے بچ جائے گا اور دانت جلدی نکال لے گا۔

شوربہ گوشت - چھڑے کا گوشت

ایک گاجر (کٹی ہوئی)

ایک پنڈلی کی ہڈی (بوں)

۱۰ کپ پانی	ایک پیاز پسی ہوئی
ایک چھوٹا نمک	ایک چھوٹا کدو (کشاہوا)
۲ چھچھ اجوائے	نیاز بڑے پتے
۳ نمکڑے دار چینی	

ہڈی سے گوشت چربی وغیرہ اتار لیں۔ گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیں۔ ہڈی، گوشت، پانی اور نمک کو ساس پین میں ڈال دیں۔ آہستہ آہستہ کھولا لیں۔ سبزیاں ڈال کر بندھکلن کے ویسے میں بہت آہستہ آہستہ دو سے تین گھنے پکائیں۔ ہڈیاں الگ کر لیں۔ شوربہ تھنڈا کر کے ساری چکنائی اتار لیں۔ ایک باریک چھلنی میں شوربہ چھان لیں۔

شوربہ ایک بند جار میں ڈال کر فریج میں رکھ لیں۔ اسے سوپ کے طور پر بچے کو دیں۔ اس میں بوٹیاں ملا کر بھی دیا جا سکتا ہے۔ مسلسل استعمال کے لئے اسے آنس کیوب ٹرے میں ڈال کر فریز کر لیں۔

اگر بہت چھوٹے بچے کے لئے شوربہ بنارہے ہیں تو پیاز اور نمک نہ ڈالیں۔

۸ ماہ

دم پختہ پھٹرے کا گوشت

۵۰۰ گرام گوشت ۲ کپ گوشت کا شوربہ یا سبزی کا بچا ہوا
پانی ۲ گاجریں۔ لمبے باریک ٹکڑے کاٹ لیں اجوائے ایک چنکی

ایک لکڑا پسی ہوتی دار چینی
ٹماٹر۔ چھیل کر پسیے ہوئے

آدھا کپ مثر
ایک بڑا آلو۔ بھرتہ بنایا ہوا

ساری چیزوں بند ساس پین میں ڈال کر تقریباً ڈیرہ گھنٹے تک پکائیں یہاں
تک کہ گوشت اچھی طرح گل جائے۔ یہ جس طرح ہے، بڑے افراد کو پیش کر
دیں۔ بچے کے لئے ساری چیزوں کی پوری بنالیں۔ نرم کرنے کے لئے شور بہ ملا
لیں۔

اس اسٹو میں دوسری سبزیاں بھی ڈالی جاسکتی ہیں۔ میٹھے آلو، پھلیاں چھوٹھائی
کپ براؤں چاول وغیرہ۔ چیزوں کی مقدار کو ڈبل بھی کیا جاسکتا ہے۔

۱۰ سے ۱۲ ماہ

کوفتے

۵۰۰ گرام قیمة
لکڑے
آدھا کپ روٹی کے سوکھے

ایک سیب کدو کش کیا ہوا

ایک انڈا اچھینٹا ہوا

ساری چیزوں کو اچھی طرح ملا کر دوبارہ پیسیں اور چھوٹے چھوٹے گول گیند
بنالیں۔ سلاخوں پر لگا کر انگلیٹھی (جالی دار) پر رکھ کر پکائیں۔ گھر کی بنی ہوتی ٹماٹر
کی چینی کے ساتھ دیں یا کوفتے بچے کے ہاتھ میں تھما دیں۔

چھڑے کا گوشت

۱۲ سے ۱۳ ماہ

۵۰۰ گرام گوشت	ایک کپ پاک کر کچھے ہوئے آلو
۲ چھچ تیل	ایک چھچ و بیٹ جرم
۲ گا جریں۔ پاک کر مسلسل ہوئی	آدھا کپ گوشت کا شوربہ
گوشت کو تیل میں بھون کر سرخ کر لیں۔ تیل اچھی طرح نچوڑ کر گوشت باہر نکال لیں۔ گوشت، شوربے اور گا جروں کو مکھن لگے کیسیر ول میں ڈال دیں۔ اوپر آلو پھیلا دیں۔ اس پر و بیٹ جرم چھڑک دیں۔ موڑ رہیت اورون میں پاکیں یاد کیجھ لیں کہ جب اوپر کا حصہ براؤن ہو جائے تو اتار لیں۔	

بیف اور رائس کیسیر ول

۱۸ ماہ

۵۰۰ گرام گوشت	حسب ضرورت
ایک پیاز (پسی ہوئی)	ایک چنکی اجوان
۲ کپ ٹماٹر کا جوں	آدھا کپ کشمکش
پیاز اور گوشت کو تیل میں سرخ کر لیں۔ تیل نچوڑ کر باہر نکال لیں۔ باقی چیزیں ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور کیسیر ول میں ڈال دیں۔ ہند کر کے گیس مارک ۴, ۱75C (350F) پر تیس سے چالیس منٹ تک پاکیں یہاں تک کہ ساری چیزیں گھل مل جائیں۔	آدھا کپ قدرتی براؤن چاول

ایک چھوٹا خرگوش

۲ کپ پانی یا چکن شور بہ

ایک کپ سفید ساس

خرگوش صاف کر کے اس کا گوشت بنالیں اور تھوڑا سا نمک لگے پانی میں ڈال کر رات بھر فریج میں رکھیں۔ پھر خرگوش کو نکال کر اچھی طرح خشک کریں۔ اسے ساس پین میں رکھیں اور اس میں شور بہ، گاجر اور دار چینی ڈال دیں۔ ڈھکن دے کر ڈیڑھ گھنٹے تک پکا کر نرم کر لیں۔ جب تھنڈا ہو جائے تو گوشت ہڈیوں سے اتار کر الگ کر لیں اور سارے آمیزے سمیت کانٹے سے مسل لیں۔ ساتھ تھوڑا تھوڑا شور بہ ملا کر اسے نرم کرتے جائیں۔ خرگوش کو سفید ساس میں ملا کر پیش کریں۔

سفید ساس

ایک کپ دودھ

ایک چھچھ دلی گندم کا آٹا

وسمی آٹچ پر مکھن پکھا لیں۔ اس میں آٹا ملا کر ایک منٹ تک پکائیں۔ آہستہ آہستہ اس میں دودھ ملا کر مسلسل چھچھ چلاتے جائیں یہاں تک کہ آمیزہ گاڑھا ہو جائے۔

پین کیک

پین کیک ساری فیملی کے لئے اچھے اور تو انائی سے بھر پور ہوتے ہیں۔ انہیں فریز کیا جاسکتا ہے۔ لہذا ایک ہی دفعہ بہت زیادہ مقدار میں کیک بنانے کا سندھ کے لئے پیٹ بنانا کرفریز کر لیں۔ چھوٹے اور بڑے افراد کو بھوک کے وقت دو یا تین کیک دیئے جاسکتے ہیں۔ کیک میں چٹ پٹی چیزیں ڈالیں اور انہیں روٹ کر کے گر لیں گی اون پروف ڈش میں ڈالیں۔ فوکل (FOIL) میں پیٹ کر پا کیں۔ کیک پکانے کے بعد انہیں سوکھنے سے بچانے کے لئے فوکل میں لپٹنے سے پہلے مکھن کے ٹیکے لگائیں۔ اس کے علاوہ پنیر کی چنی یا گھر پہنچنی بھی لگائی جاسکتی ہے۔ یہ ذائقہ دار فلیور ہے اور کیک کو نرم رکھتا ہے۔

پین کیک کا آمیزہ

چنکی بھرنمک

ایک کپ آٹا

ڈیزھ کپ دو دھ

ایک انڈا

ساری چیزیں بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح ملا لیں۔ یہ آمیزہ ایک گھنٹہ تک پڑا رہنے دیں۔ یہ آمیزہ زیادہ پتلہ ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں تو اور دو دھ ملا کر اسے پتلہ کر لیں۔

بلینڈ کیے بغیر کیک بنانے کے لئے ایک پیالے میں آٹا اور نمک ملا کیں۔ بھر انڈا اس میں ڈال دیں اور اچھی طرح مکس کریں۔ آہستہ آہستہ دو دھ ملا کیں مسلسل

چھینٹتے جائیں۔ یہ آمیزہ ایک گھنٹہ پڑا رہنے دیں۔ فرائی پین میں جھوڑی سی چکنائی لگائیں۔ پھر اس میں جھوڑا سامکھن پکھا جائیں۔ اس میں آمیزے کے دو تین چھ ڈالیں۔ جب پھول کر بلبلے سے اوپر آ جائیں تو دوسرا سامنہ بدل کر سرخ کر لیں۔

کیک میں ملانے والی چیزیں :-

اجوان کی چلنی میں سیمہ چکن یا روست چکن کے بچ کچھے ٹکڑے۔
مجھلی:- ٹماٹر کی چلنی میں گوشت کے باریک ٹکڑے۔ بچی کچھی سبزیاں کسی
چلنی میں ملا کر۔ آپ اپنی پسند سے کوئی چیز بھی ملا سکتے ہیں۔ آپ کا بچہ جو پسند
کرے، آپ وہی ملا سکتے ہیں۔

یخنی:- بہت سے بچے باکل خشک چیزوں کو ناپسند کرتے ہیں لہذا یخنی کو مختلف
چیزوں میں ڈال کر بچوں کی پسند کے مطابق چیزیں زم کر کے دی جاسکتی ہیں۔

شہداور مصالحہ

بہت چھوٹے بچوں کے لئے دہی، تازہ پھل، تازہ جوں، اسٹوڈ (دم پختہ)
فروٹ، کسترڈ اور برڈے بچے کے لئے آنکھ کریم جیسی چیزیں بطور میٹھے پکوان دی
جاسکتی ہیں۔

بچوں کو میٹھے کیک اور سکٹ دینے سے اجتناب کریں۔ یہ بچے کی بھوک ختم کر

دیتے ہیں۔ تازہ پھل، پنیر کے نکڑے، دارچینی اور گاجر کے نکڑے اور خشک پھل
صحت مند غذا کیسیں ہیں۔



میٹھے کھانے

انڈا ایک عدد دو تین قطرے و نیلا پسنس
 شہد (گرم کیا ہوا) ایک چیج دو دھن ایک کپ
 ایک چھوٹی اون پروف ڈش میں مکھن لگائیں۔ انڈے اور چمنی یا شہد کو اچھی طرح ملائیں۔ اس میں دو دھن اور نیلا ملائیں اور ڈش میں انڈیل دیں۔ ایک بیلنگ پین آ دھاپانی سے بھر دیں اور اس میں ڈش رکھ دیں۔ یہ طریقہ کسٹرڈ کو لگنے اور پھنکیاں بنانے سے بچاتا ہے۔ ہمیں آنچ پر اون گیس مارک 2-3 2-3 (300-325F) 150-165C میں پندرہ بیس منٹ تک پکا کر سیٹ کریں۔

اگر بارہ ماہ سے کم عمر کے بچے کو دینا ہو تو انڈے کی صرف زردی استعمال کریں۔

کیلے (ملے ہوئے) ۲ عدد شہد ایک چیج
 آ دھا کپ دم پختہ سیب یا کدو کش کیا ہوا سیب

اچھی طرح سب چیزیں ملا کر انہیں ٹھنڈا کر لیں۔ کھلانے سے پہلے جھوڑی سی کشمکش اور ویٹ جرم چھڑ کیں۔

اور نج بنا

۶ کیلے سنگت روں کا جوں

آ دھا چچ کشمکش

کیلے کے لمبے نکلے کاٹ لیں۔ اوون پروف ڈش میں رکھیں اور پا اور نج جوں ڈالیں۔ کشمکش اور چینی یا شہد چھڑ کیں۔ موڈریٹ اوون میں پکا کر نرم کر لیں۔ یہ خیال رہے کہ کیلے کے نکلے ٹوٹنے نہ پائیں۔ یہ میٹھا کھانا بچوں کے لئے بہت لذیذ ہے۔

اپل کسترڈ

ایک چچ شہد

ایک انڈا

اوون کو گیس مارک (350F) 4,175C پر پہلے ہی گرم کر لیں۔ سیب کو دھو کر چھیل لیں اور چچ زکال دیں پھر باریک نکلے کاٹ لیں۔ اوون پروف ڈش میں اچھی طرح مکھن لگا لیں۔ اور پر شہدا نڈیل دیں۔ انڈے کو اچھی طرح پھینٹ کر سیب پر ڈال دیں۔ ڈسٹی آنچ پر اوون میں تیس منٹ تک پکائیں یا دلکھ لیں کہ

سب کچھ سیٹ ہو جائے اگر بارہ ماہ سے کم عمر کے بچے کو دینا ہے تو صرف انہے کی زردی استعمال کریں۔

۱۰ماہ

شہد اور فروٹ

کوئی ساموئی پھل استعمال کریں۔ پھل کو ساس پین میں ڈال کر ٹھنڈے پانی سے ڈھانپ دیں۔ شہد ڈال کر ابال لیں اور فوراً کھادیں۔

۱۰ماہ

دہی کا شربت

ایک کپ دہی
ایک کپ کوئی تازہ پھل (باکل چھوٹے چھوٹے نکلے کاٹ لیں)
دہی اور پھل کو مکس کر لیں۔ ایک گھنٹہ فریز کریں۔

۱۲ماہ

فروٹ فراتھ (GELATINE)

ایک ہموار چھڈیوں کے گودے کا سفوف ایک چھچی یمن جوں
آدھا کپ گرم فروٹ جوں چوتھائی کپ پانی
ایک انڈے کی سفیدی ۴ چھچی شہد
آدھا کپ کسی بھی فروٹ کا گودا تازہ یا دم پختہ
گودے کے سفوف کو پانی میں بھگوئیں اور گرم فروٹ جوں ملا کیں۔ شہد اور

لیمن جوں ڈلیں خوب ہلا کر شہد حل کر لیں۔ جھوڑ اٹھندا کر لیں اور جب آمیزہ سیٹ ہونے لگتے فروٹ کا گودا ملا کر پھینٹیں یہاں تک کہ آمیزہ گاڑھا ہو جائے۔ اور پر انڈے کی سفیدی ڈال دیں۔ بڑی ڈش یا ہر ایک پلیٹ میں الگ الگ ڈال دیں۔

۱۲ ماہ

فروٹ گیلڈو

۲ کپ فروٹ اچھی طرح مسلی ہوئے ۲ عدد لیموں کا جوں
۲ انڈوں کی سفیدی (پھینٹی چھچ شہد ہوتی)

انہیں الگ اگ آنس بلاک یا آنس کریم ٹرے میں بنایا جاسکتا ہے۔ فروٹ کے گودے کو شہد میں اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس میں لیموں کا جوں ملا لیں۔ فریز کر کے انہیں سیٹ کر لیں۔ پھر فریز سے نکال کر انڈوں کی سفیدی اس آمیزے میں پھینٹ لیں اور فریز کر لیں۔

۱۲ ماہ

یوگرٹ فروٹ ووبل

۲ کپ کسی بھی پھل کا جوں ۲ چچ گیلیش
۲ کپ سادہ وہی کسی دو پھلوں کا گودا (برڑے بچوں کے لئے)

وہی آج پر آدھے کپ فروٹ جوں میں گیلیشن حل کر لیں۔ وہی اور بقیا جوں اور گودام لیں۔ ٹھنڈا کر لیں تاکہ گاڑھا ہو جائے۔ پھر پھینٹ کر ہلاکا اور پھولہ ہوا بنالیں۔ ٹھنڈے پانی کے ساتھ کنٹیز میں ٹھنڈا کر کے سیٹ کر لیں۔

آنس کریم ۱۲ ماہ

خشک دو دھن کا بڑا اڈبہ
ایک چیج گیلیشن
ایک انڈا (برے) چیج پانی
۳ چیج کشہ روگر
ایک چیج و نیلا

ٹاپ کول پر فرتیج کو انہتائی ٹھنڈا کریں۔ چینی، گیلیشن اور پانی ایک ساس پین میں ملا کر وہی آج پر چیج سے ہلا کیں۔ جب اچھی طرح تمام چیزیں حل ہو جائیں تو آج سے اتار لیں۔ انڈا توڑ کر اس میں اچھی طرح ملا لیں۔ آہستہ آہستہ (شوگر گیلیشن سیرپ) اس میں و نیلا ملا کر ٹڑے میں ڈال کر فریز کر لیں۔

چیزی فریز ۱۵ ماہ

۲ چیج دیسی پنیر
آ دھا کپ کوئی سافروٹ جوں
۳ سرخ سیب، چھیل کر چیزی نکال لیں

ساری چیزوں کو بلینڈر میں ڈال کر اچھی طرح یک جان کر لیں۔ اگر آپ کے پاس بلینڈرنیں ہے تو سیب کو باریک کدو کش کر کے ساری چیزوں کے ساتھ

اچھی طرح مکس کر لیں۔ فریز رڑے میں ڈال کریا گتے کے کپوں میں الگ الگ
ڈال کرتیں منٹ تک فریز کریں اور پیش کر دیں۔

۱۸ ماہ

بیسری آنس کریم

ایک چھوٹی ٹوکری یا چنگیں	ٹیبل سپون شہد
تازہ بیریاں حسب ضرورت	آدھائیوں جوں
آدھا کپ پانی	آدھا کپ کریم
	چنکی نمک

بیریوں کو اچھی طرح کچل لیں۔ پانی، شہد، یمن، جوں اور نمک اچھی طرح مکس کر کے بیریوں میں ملا لیں۔ اور پر کریم ڈال دیں۔ فریز رڑے میں انڈیل کر فریز کر لیں۔ گاہے بگاہے ہلاتے رہیں۔

۲ سال

فروٹی آنس کریم

ایک بڑا اڈبے خشک دودھ	ایک انڈا
ٹیبل سپون کیسٹر شوگر	ایک ٹیبل سپون البتا پانی
ایک لی سپون ونیلا	ایک کیلا۔ اچھی طرح کچا ہوا
ایک لی سپون گیلیشن	کوئی سے فروٹ
خوب سہنئے ہوئے انڈے اور دودھ ایک پیالے میں ڈال لیں۔ اس میں چینی	

اور و نیلا ملائیں۔ اب تے پانی میں گیلیشن حل کر لیں اور گرم گرم کو دودھ میں ملا کمیں۔ فریزر ٹرے میں ڈال کر فریزر میں رکھ کر نہایت تھنڈا کر لیں۔ ٹرے سے نکال کر تھنڈے پیالے میں ڈال لیں۔ اس میں کچلا ہوا کیلا اور دوسرا سپلاؤں کا گودا ڈال کر اچھی طرح پھینٹ لیں۔ سارا آمیزہ دوبارہ ٹرے میں ڈال کر فریزر کر لیں۔

سیپ کے نکلوے

- ۱۔ سیب - چھیل کر بچ نکال لیں ایک چنکی نمک

۲۔ ٹبلیبل سپون شہد ۳۰ گرام و بیٹ جرم

۳۔ ایک ٹی سپون دار چینی (حسب پسند)

۴۔ ۲۰ گرام مکھن

۵۔ ۵۵ گرام ان چھنادیسی آٹا

بیلنگ ڈش میں مکھن لگائیں۔ کئے ہوئے سیب کے نکڑوں کی ڈش میں تمیس لگا دیں۔ اور پر شہد ڈال دیں۔ مکھن، آٹا، و بیٹ جرم، نمک، دار چینی اور چینی اچھی طرح ملا لیں۔ انہیں سیبوں پر انڈیل کر گیس مارک (375C) 5,190C پر تیس منٹ تک پکا کیں۔

سیاسی رائے

- ۲۴ کپ قدرتی براؤں چاول اسٹو کپ فروٹ اسٹو ایک کپ

آدھا کپ خشک دودھ	ایک ٹیبل سپون اور نج کا گودا
۳ ٹیبل سپون براؤن چاول	۲ ٹیبل سپون یموں کا گودا (حسب نشا)
آدھا چچ کشمش	۳ ٹیبل سپون مکھن
آدھا چچ جانفل	۳ ٹیبل سپون شہد
چھوڑ اسما مکھن	۴ گنٹروں کا جوس

چاول کو ساری چیزوں کے گودے میں ملا کر اون پروف ساس پین میں ڈال دیں۔ ان میں مکھن اور شہد بھی ملائیں۔ اور نج جوں ناپ کراس میں پانی ملا چار کپ بنالیں اور چاول ملائیں۔ ڈھانپ کر دھیمی آنج پر پکا کر چاول نرم کر لیں۔ یہاں تک کہ سارا آمیزہ یک جان ہو جائے۔ چوہبھے سے اتار کر اس میں فروٹ دو چچ شہد، کشمش اور دودھ ملائیں۔ چاولوں کی سطح پر چینی اور ملا جلا گرم مصالحہ ڈال دیں۔ اوپر ٹیبل سپون مکھن کے طیکے لگا کر موڑ ریت اون میں پکائیں یہاں تک کہ اوپر کی ساری چیزیں پکھل جائیں۔

خوبانی فلف سال ۲

پون کپ خشک خوبانیوں کا گودا	۴ ٹیبل سپون دلیسی چینی
خوبانیوں کی سفیدی (اچھی طرح چینی ہوتی)	۵ انڈوں کی سفیدی

خوبانیاں پانی میں بھگو کر رات بھر پڑا رہنے دیں۔ پھر پکا کر گودا سا بنا لیں۔ چینی ملا کر اوپر چینی ہوئے انڈوں کی سفیدی ڈال دیں اور کیسیر ول میں رکھیں۔

اوپر اخروٹ کا براوہ ڈال دیں۔ موڈریٹ اوون میں ۲۵ سے ۵۰ منٹ تک پکائیں۔

نچے اس خوبانی کے فلف کو بہت پسند کرتے ہیں اسے کریم اور اخروٹ سے سجا کر ڈنر پارٹی میں پیش کیا جاسکتا ہے۔

نوٹ = چار سال سے کم عمر کے بچوں کو اخروٹ ملا کر استعمال نہ کرائیں۔

پین کیک

پین کیک عام طور پر ساری فیملی میں پسند کیے جاتے ہیں۔ انہیں پہلے سے تیار کر کے فریج میں رکھ لیں اور ضرورت پیش آنے پر نکال کر گرم کر لیں۔ اس سے آپ کا کافی وقت نجیج جائے گا۔

پین کے اندر عموماً میٹھی چیزیں بھری جاتی ہیں۔

پین کیک کا بنیادی آمیزہ

چکنی بھرنمک

ایک کپ دیسی گندم کا آٹا

سو اکپ دودھ

ایک انڈا

ساری چیزیں بلینڈ میں ڈال کر اچھی طرح بلینڈ کر لیں۔ ایک گھنٹہ پر اربنے دیں۔ اگر آمیزہ کریم کی طرح انڈا یا انہے جائے تو تمہوڑا سا دودھ اور ملا کر دوبارہ بلینڈ کر لیں۔

اگر آپ بلینڈ راستعمال نہیں کر رہے تو آئے اور نمک کو ایک پیالے میں
چھان کر اس میں پورا انڈا ڈال کر خوب اچھی طرح ملا لیں۔ آہستہ آہستہ دو دو
ڈال کر مسلسل چچھ ہلاتے رہیں۔ اس کے بعد آمیزہ ایک گھنٹہ تک پڑا رہنے دیں۔
فراتی پین کے ارد گردنھوڑ اسکی لگائیں۔ اس میں تھوڑا سا مکھن پکھا لیں۔
باکل تھوڑا سا آمیزہ اس میں ڈالیں۔ جب یہ پھول جائے تو سائنس بدلت کر دوسرا
طرف سے براؤن کر لیں۔

پین کے اندر آپ مندرجہ ذیل چیزیں ڈال سکتے ہیں۔

لیمن جوس اور شہد یا چینی دم پختہ سیب اور کشمش

دم پختہ سیب اور روہی دم پختہ سیب اور دلیسی پنیر

کریم پنیر جس میں کشمش اور شہد ملایا گیا ہو دم پختہ خوبانی اور کریم

کسی تازہ فروٹ کا گودا اور نجھ جوس اور شہد یا چینی

پین کیک کو گولائی میں بیل لیں۔ اس کے اوپر پورا چھیلا ہوا کیلا (جو پہلے
سے اوون میں گرم کیا گیا ہو) ڈال کر لپیٹ لیں۔ اسے فحش کرنے کے لئے
درمیان میں ٹوٹھ پک لگائیں۔ اس کے اوپر لیمن جوس اور شہد کی چنی ڈال کر
کھائیں۔ نہایت لذیذ ہے۔

غذا بیت سے بھر پور چبا کر کھانے والی میٹھی غذا میں

جبکہ جہاں تک ممکن ہو بچوں کو میٹھی چیزیں دینے سے گریز کریں۔ مگر کبھی کبھی

ذائقہ بد لئے کیلئے میٹھی چیزیں گھر میں تیار کر لیا کریں۔ پانچ سال کے بچے جو عام
چیزیں کھا کھا کر بورہ جائیں اُنہیں کبھی کھا رضو میٹھی چیز کھلا دیا کریں۔

بی

۱۲۵	اگرام نکھن	آدھا کپ ناریل
	آدھا کپ شہد	آدھا کپ کشمکش یا کٹی ہوتی کھجوریں
	آدھا کپ دودھ	آدھا کپ ویٹ جرم
	آدھا کپ اخروٹ	

ایک فرائی پین میں نکھن اور شہد پکھا لیں۔ باقی چیزیں ملا کر خوب ہلائیں۔
اگر آمیزہ بہت پتلائے تو کٹا ہوا فروٹ اور ڈال دیں یا خشک دودھ ملا لیں۔ کسی
گھرے برتن میں چکنا ہٹ لگا کر آمیزہ اس میں ڈال دیں۔ اچھی طرح مٹھندا کر
لیں۔ جب سیٹ ہو جائے تو چوکو نکلاے کاٹ لیں۔

نوٹ = ۳ سال سے کم عمر کے بچوں کو اخروٹ لگے بسک نہ دیں۔ اخروٹوں
کو آمیزے میں ڈالنے سے پہلے بلینڈر میں پیس لیں۔

چوکو رول

۲۰	میبل سپون شہد	۲۰ اگرام ناریل (باریک کٹی ہوتی)
۲۵	۲۵ اگرام نکھن	

ہیاتھ بارز

۲۵۔ اگرام پاؤڈر ملک ۲۰۔ اگرام کٹی ہوئی کشمش

دھیمی آنچ پر شہد اور مکھن کو گرم کریں۔ ان میں خشک دودھ، ناریل، کشمش اور
تل ڈال دیں۔ انہیں اچھی طرح مکس کر لیں۔ کسی گھرے برتن میں دبا کر ڈال
دیں۔ فرتع میں رکھ کر سخت کر لیں اور چوکو نکلے کاٹ لیں۔

۲۵۔ اگرام کھجوریں ۳۰۔ اگرام کشمش

۲۵۔ اگرام خشک انجر ۳۰۔ اگرام وارچینی

۲۵۔ اگرام خشک خوبانی ایک چھپی لیموں کا گودا

۵۵۔ اگرام انجر کٹی ہوئی (چھوٹے بچوں کے لئے انہیں باریک پیس لیں)
لیموں کے گودے کے علاوہ ساری چیزوں کو پیس لیں اور اچھی طرح آپس
میں ملا لیں۔ پھر ایک مکھن لگے ڈبے میں ڈال کر اوپر سے اچھی طرح دبا کیں۔
ان کے لمبے نکلوے کاٹ لیں اور لیموں کے گودے پر ملیں۔

فروٹ اور اخروٹ کے گولے

ایک کپ پانی

ایک کپ خشک خوبانی

آدھا کپ پسی ہوئے بادام

۲۱ آدھا کپ پسی ہوئی کھجوریں
سپون کارب پاؤڈر
ٹل (حسب نشانہ)

پانی اور خوبنایاں ایک ساس پین میں ڈالیں اور خوبنایاں پکا کر نرم کر لیں۔ اس کے بعد ساس پین نیچے اتار کر تلوں کے علاوہ باقی سری چیزیں ملا دیں۔ اچھی طرح مل جائے تو انہیں ٹھنڈا کر لیں۔ آمیزے سے چھوٹے چھوٹے گولے بنالیں اگر آپ پسند کریں تو انہیں ناریل یا تلوں پر پھیریں۔ اچھی طرح سخت کرنے کے لئے فریج میں رکھیں۔

اخروٹ کے گولے

۲۰ گرام اخروٹ کا تیل
ٹبلیسپون شہد
آدھائی سپون جانفل
ٹبلیسپون خشک دودھ
ناریل کے علاوہ ساری چیزوں کو پیس لیں۔ اس آمیزے کو دھیمی آنچ پر پکا کر خاصا گاڑھا کر لیں۔ آنچ سے اتار کر اس میں کافی زیادہ ناریل ملا کیں کہ آمیزہ اکٹھا ہو جائے اور اس کے گولے بنائے جاسکیں پھر گولے بننا کر مزید ناریل لگائیں اور ٹھنڈا کر لیں۔

آنس بلاک

یہاں پچھے جو خنث خوارک نہ لے سکیں انہیں گھر پہ تیار کر کے آنس بلاک دیں، انہیں بہت پسند آئیں گے۔ گلے میں خرابی ہونے کی صورت میں یہ بچوں کے لئے خاص طور پر مزید ارجمند ہے۔ آپ اس مقصد کیلئے پیش فریز ٹرے بھی خرید سکتے ہیں۔ ان کے ساتھ چھوٹی سکس بھی خرید لیں جو آنس ٹرے میں رکھی جا سکیں۔

مندرجہ ذیل سے کچھ مرکبات لیں:

ایک چھچھ کارب پاؤڈر اور ایک

دودھ اور کارب پاؤڈر

کپ دودھ

دودھ کٹی ہوئی ناریل

دودھ انڈے کی زردی اور شہد

دہی تازہ پھل کا گودا

دودھ کدو کش کیا ہوا سیب

دودھ میں بلینڈ کیا ہوا اخروٹ

دہی فروٹ جوس۔ ہم وزن

تازہ پھل کا جوس پھل کا گودا۔

دہی کٹا ہوا خشک پھل اور شہد

ہم وزن

سیب کا جوس سبز چھونا انگور

گھر پہ تیار کردہ آنس کریم اور تازہ پھل کا گودا۔ ہم وزن

نخ بستہ اور نخ

موسم گرم کے نہایت گرم دن میں فریز کئے ہوئے اور نخ لیں۔

بسکٹ

بچے بسکٹ کھانا پسند کرتے ہیں مگر جہاں تک ہو سکے سفید چینی والے بسکٹ دینے سے اجتناب کریں کیونکہ یہ بچوں کے چھوٹے چھوٹے دانتوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ گھر پہ بسکٹ تیار کرنا نہایت آسان ہے۔ یہ نہایت لذیذ بھی ہوتے ہیں۔

اوٹ کرپسی

ٹیبل سپون شہد	آ دھا کپ آٹا (دیسی گندم کا)
چوتھائی کپ دودھ، کشمش	ایک ٹی سپون بیکنگ پاؤڈر
۹۰ گرام بڑ	سو اکپرول کیسے جو
اوون کو گیس مارک (400F) 6,205C پر پسلے ہی سے گرم کر لیں۔	
آٹے اور بیکنگ پاؤڈر کو چھان لیں۔ ان میں جو ڈال دیں۔ ان پر مکھن کا ہاتھ لگا کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ شہد اور دودھ ڈال کر اچھی طرح مکس کریں۔ اس آمیزے کو میں منت تک ٹھنڈا کریں۔ ایک چھچھ آمیزے کا ایک ایک گولہ بنالیں۔ اس کے بعد کانٹے سے فلیٹ کر کے چکنے بسکٹ ٹرے میں ڈال دیں۔ ہر بسکٹ پر	

کشمش لگا کر پندرہ بیس منٹ تک اوون میں پکائیں۔ یہاں تک کہ گولڈن بر اوون ہو جائیں۔

موسلی کوکیز MUESLI COOKIES

ایک ٹی سپون دار چینی	ڈیرہ کپ موسلی
۱۲۵ اگرام پکھا ہوا مکھن	آدھا کپ خشک دودھ
دو انڈے	آدھا کپ ویٹ جرم
باداموں کی گریاں (آدمی آدمی کی ہوتی)	آدھا کپ شہد
	چکلی بھرنمک
تمام خشک چیزیں مکس کر لیں۔ پھر ان میں پکھا ہوا مکھن اور چینیتے ہوئے انڈے ڈال دیں۔ اچھی طرح مکس کر کے چکنے بسکٹ ٹرے میں ایک ایک چھ ڈالتے جائیں۔ اوپر بادام کی گریاں لگائیں اور پندرہ بیس منٹ تک گیس مارک 4,175C (350F) پر پکائیں۔	

انیونر یک بسکٹ (ہمیشہ پسند کیے جانے والے)

ایک کپ رول کیے ہوئے جو ۱۲۵ اگرام مکھن	ایک کپ سادہ آٹا
آدھائی سپون بائی کاربونیٹ سوڑا	ایک کپ دلیسی چینی
ایک بڑا چچھ پانی البتہ ہوا	

پون کپ پسی ہوئی ناریل ایک چجھ شہد

جو، آٹا، چینی اور ناریل مکس کر لیں۔ ایک ساس پین میں شہد اور مکھن پکھا لیں۔ اب تھے ہوئے پانی میں سوڈا ڈال دیں اور پکھلے ہوئے مکھن اور شہد میں ملا دیں۔ اس کے بعد خشک چیزیں ملا دیں۔ اور اچھی طرح مکس کر لیں۔ ایک ایک چجھ گر لیں گے بسکٹ ٹرے میں ڈال دیں۔ اور بیس منٹ تک گیس مارک (300F) پر پکائیں۔

ڈیٹ کوکیز

۲۵۰ گرام مکھن کا خالص آٹا

ایک کپ دیسی چینی

ایک انڈا

پون کپ کھجوریں

پون کپ اخروٹ (چھوٹے بچوں کے لئے پیس لیں)

کا گودا

مکھن اور چینی کی کریم تیار کر لیں۔ پہینٹا ہوا انڈا ملا لیں۔ اخروٹ کے علاوہ باقی تمام چیزیں بھی ملا دیں اور اچھی طرح مکس کر لیں۔ سارا آمیزی چکنے گہرے بلنگ ٹین میں پھیلا دیں اور پر اخروٹ چھڑک دیں اور موڈریٹ اوون میں بیس منٹ تک پکائیں۔ جب آمیزہ ٹھنڈا ہو جائے تو چوکو نکل رے کاٹ لیں۔

کرنچی کوکیز (CRUNCHY COOKIES)

۲۵ اگرام مکھن آ دھا کپ کشمش
ڈیڑھ کپ دلیسی چینی ایک کپ دلیسی گندم کا نالص آٹا
آٹا دھا کپ تل آٹا
اخروٹ کے گلڑے۔ ایک پچھ دارچینی (چھوٹے بچوں کے لئے نہ ڈالیں) مکھن اور چینی کی کریم تیار کر لیں۔ انڈا ڈال کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ اخروٹ کے گلڑوں کے علاوہ ساری چیزیں ڈال کر اچھی طرح مکس کریں۔ اس آمیزے کو خوب پختے گھرے بلکن میں میں ڈال دیں۔ اخروٹ کے گلڑے اور پسجدادیں اور موڈ ریٹ اوون میں بیس منٹ تک پکائیں۔ سخندا ہونے پر چوکور گلڑوں میں کاٹ لیں۔

جو کے بسکٹ

آ دھا کپ مکھن آٹا دھا کپ دلیسی چینی
چنکلی بھرنمک آٹا دھا کپ کشمش
آٹا دھا کپ جو کا آٹا
ایک ٹیبل سپون اور نج جوس ایک ٹیبل سپون دارچینی
۳ ٹیبل سپون دودھ ایک کپ جو کا آٹا
مکھن اور چینی کی کریم تیار کر لیں۔ پھر پھینٹا ہوا انڈا اس میں ملا دیں بعد میں

اور نج جوں اور دودھ ملادیں۔ خشک چیزیں آپس میں ملا لیں۔ اور انہیں آہستہ آہستہ مکھن اور چینی کے آمیزے میں اچھی طرح مکس کر لیں۔ ایک ایک چیج چکنے بسکٹ ٹرے میں ڈالتے جائیں اور موڑ ریٹ اوون میں دس پندرہ منٹ تک پکائیں۔

گاجر کے بسکٹ

۱ کپ سماہہ آٹا	ایک لی سپون و نیلا
۲ لی سپون بیلنگ پاؤڈر	۲ کپ کدو کش کی ہوتی گاجر
چنکی بھر مکھن	چوتھائی کپ ویٹ جرم
ایک لی سپون دار چینی	۴ چیچ اور نج کا گودا
پون کپ دلیسی چینی	ایک انڈا

مکھن اور چینی کی کریم تیار کر لیں۔ اس میں انڈا اور و نیلا ملا کر اچھی طرح چھینیں۔ آٹے اور بیلنگ پاؤڈر کو چھان لیں۔ اس میں گاجریں، ویٹ جرم، دار چینی اور اور نج کا گودا ملا لیں۔ آمیزے کا ایک ایک چیچ چکنے بسکٹ ٹرے میں ڈالتے جائیں اور بیس پچھیس منٹ تک موڑ ریٹ اوون میں پکائیں۔

کیلے کے بسکٹ

پون کپ مکھن آ دھائی سپون نمک

ایک کپ چینی	آیک اند اپھینٹا ہوا
آ دھائی سپون جا پھلی	ایک کپ کچلا ہوا کیلا
ڈیرہ ح کپ آنا	
آ دھائی سپون سوڈا بائی کاربونیٹ	پونے دو کپ جو کا آنا
لکھن اور چینی کی کریم تیار کر لیں اور اس میں پھینٹا ہوا اند اپھی طرح مکس کر لیں۔ آنا، سوڈا بائی کاربونیٹ، نمک اور مصالحہ جات آپس میں ملا کر کریم والے آمیزے میں اپھی طرح مکس کر لیں۔ اس میں کیلا اور جو ملائیں، پھر اپھی طرح مکس کریں۔ ایک ایک چیج چکنے بسکٹرے میں ڈال کر گیس مارک 6,205 (400F) پر بارہ پندرہ منٹ تک پکائیں۔	

ان کے علاوہ بھی آپ جو چیز پسند کریں، ان بستلوں میں ڈال سکتے ہیں۔ مثلاً کشمش، اخروٹ اور اورنج کے کٹے ہوئے چھلکے وغیرہ۔

پارٹی فوڈ

پارٹی فوڈ کو دیکھنے میں خوبصورت اور کھانے میں غذائیت سے بھر پور بنایا جا سکتا ہے۔ پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کی پارٹی کے لئے ذہن میں رکھنے کی اہم بات یہ ہے کہ کھانا سادہ اور کھانے میں آسان ہونا چاہیے۔ بنچے اپنی دل پسند چیزوں کو زیادہ شوق سے کھاتے ہیں۔ کوشش کریں کہ آنس کریم گھر پر تیار کر کے اسے کون میں بھر کر اس کے اندر پسے ہوئے اخروٹ، یا کٹی ہوئی کشمش لگائیں اس

کے علاوہ تازہ پھلوں سے سجائی ہوئی فروٹ جوس سے تیار کردہ جیلی، کچھ کپ کیک اور بسکٹ اور پیش سیندوچ میز پر بھے ہوئے نہایت لذش و لذائی دیتے ہیں۔ گھر پر تیار کردہ مٹھائیاں، پاپ کارن، گاجر کا حلواہ اور توہ پکس کے سرے پر پنیر لگا کر اسے اور نخ میں ڈال کر میز پر سجائنا نہ بھولیے۔ اور نخ، یہوں، فروٹ جوس اور دودھ کے مشروبات بھی گھر پر تیار کیے جاسکتے ہیں سائلکرہ کا کیک سادہ اور ہلکا رکھیں۔

فونی فیس بسکٹ

FUNNY FACE BISCUITS

ایک کپ مکھن آ وھائی سپون سوڈا بائی کاربونیٹ

ایک کپ چینی چنکی بھرنمک

ایک کپ اراروٹ انڈے

یہ بسکٹ پارٹی کی سجاوٹ میں چار چاند لگا دیتے ہیں یہ نہایت لذیذ بھی ہوتے ہیں۔ مکھن اور چینی کی کریم بنالیں۔ ایک ایک کر کے انڈے اس میں ملا کیں اور اچھی طرح مکس کر لیں۔ چکنے سکٹ ٹڑے میں ایک ایک چھچھ آمیزہ ڈاتی جائیں۔ انہیں ہموار کرنے کے لئے گلاس کے پیندے سے دبائیں۔ پھر انہیں بسکٹ کٹر سے کاٹ لیں۔

ہلکے گرم اوون میں دس پندرہ منٹ تک پکا کر بسکٹ گولڈن رنگ کے کر لیں۔

انہیں پورا ٹھنڈا کرنے کے بعد شہداور پنیر کی کریم لگائیں۔ ان پر آنکھوں کی جگہ

کشمش کے دانے، ناک اور ہونتوں کے لئے جیلی کے باریک ٹکڑے لگائیں۔

کشمش کپ کیک

ایک کپ مکھن ۲ کپ آٹا

آدھا کپ دودھ پون کپ چینی

و نیلا آنسس کے چند قطرے آدھا کپ کشمش

۱۲ انڈے

مکھن، چینی اور نیلا کی کریم بنا لیں۔ انڈے پھینٹ کر انہیں آہستہ آہستہ کریم میں اچھی طرح مکس کر لیں۔ کشمش کو آٹے میں ملا کیں اور باری باری آٹا اور دودھ اس میں ملاتے جائیں۔ چھوٹے خانوں میں تقریباً ۲۵ کیک بنائیں اور ہلکے گرم اور ون میں تقریباً پچیس تیس منٹ تک پکا کیں۔

بچے ہمیشہ کپ کیک پسند کرتے ہیں۔ وہ کیک سے کاغذ اترنے میں لطف اندوز ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ بڑے کیک کے ٹکڑے بچے کم کھاتے ہیں۔ سالگرد کاروائی بڑا کیک استعمال کرنے کی بجائے ہر کپ کیک پر ایک ایک موم تی جلا کیں اور ہر مہمان بچے کو یہ کیک پیش کریں۔

جنجر بریڈ میں بسکٹ

۲۵ گرام دلیسی چینی ایک ٹی سپون نمک

۱۲۵	اگرام شہد
۱۳۰	مگرام مکھن
۱۴۰	ایک ٹبل سپون لیموں کا گودا آدمی جاہلی
۱۴۵	ایک انڈا ڈیرچ چیچ اور ک
۱۵۰	سجاوٹ کے لئے کشمش
۱۵۵	سفید کریم

ایک ساس پین میں شہد، چینی مکھن اور لیموں کا گودا ڈالیں۔ ہلکی آنچ پر ہلائیں تاکہ سب چیزیں یک جان ہو جائیں۔ تھنڈا کر کے اس میں انڈا امکس کر لیں۔ خشک چیزیں ایک چاچی میں چھان لیں اور اس میں گیلا آمیزہ ملا دیں۔ اس کا اچھی طرح سے آنا گوندھ لیں۔ چکلے پر جھوڑا سا آنا پھیلا کر تقریباً تین ٹلی میٹر موڑکلارے بیل لیں اور جنابریڈ میں کی شکل میں کلارے کاٹ لیں۔ انہیں کچنے بسکٹ ٹرے میں رکھیں۔ آنکھوں کی جگہ کشمش اور ناک، ہونوں کی جگہ اپنی پسند سے مختلف چیزیں لگا کر گیس مارک (325F) 3,160C پر پندرہ منٹ تک پکائیں۔ جب ذرا گرم ہی ہوں تو ٹرے سے بسکٹ اتار لیں۔ انہیں تھنڈا کر کے سفید آسنگ سے سجائیں۔

ہر بچے کے ساتھ الگ الگ پیکٹ گھر بھینتے کی جائے، جنابریڈ میں کو خوبصورت کاغذ میں لپیٹ کو اوپر رکن باندھ کر گھر جاتے ہوئے ہر بچے کو دیں۔ اگر ہر پیس پر سفید آسنگ سے ہر بچے کا نام بھی لکھا جائے تو اور بھی خوب رہے گا۔ اگر آپ کے پاس وقت ہو تو ضرور ایسا ہی کریں۔

مکھن لگے پاپ کارن

آ وھا کپ کچے کارن ۲ چجھ تیل

تیل کو بڑے ساس پین میں خوب کر کر لیں۔ اس میں کارن ڈال دیں۔ پین پڑھکن دے دیں۔ آنچ پر رکھ رکھے انہیں ہلا کیں۔ جب کپ کر پھول جائیں تو انہیں ایک پیالے میں ڈال لیں اور پمکھن کے ٹیکے لگا کیں اور نمک چھڑ کیں۔

میٹھے پاپ کارن

آ وھا کپ کچے کارن ایک کپ پانی

ٹیبل سپون تیل آ وھا چجھ کوئی سامیٹھارنگ

۲ کپ چینی

کسی بڑے سے ساس پین میں تیل کر کر لیں۔ اس میں کارن ڈال کر اوپر ڈھکن دے دیں۔ انہیں آنچ پر رکھ کر ہلا کیں تاکہ یہ پھول جائیں۔ انہیں نیچے اتار کر ایک پیالے میں ڈالیں اور مختنڈے کر لیں۔

ایک بڑے سے ساس پین میں چینی، پانی اور رنگ ڈال دیں اور بلکل آنچ پر پکا کر چینی پکھا لیں۔ جب پانی پکنے لگے اور آمیزہ گاڑھا ہو جائے تو اسے آنچ سے نیچے اتار لیں۔ پاپ کارن اس میں ڈال کر ہلا کیں کہ شیر اٹانی کی طرح اس پر چڑھ جائے۔ پین سے نکال کر انہیں مختنڈا کر لیں۔ مختنڈا کرنے کے لئے بڑی ٹرے لیں تو زیادہ بہتر ہو گا۔

خوبانی بارز

پون کپ نہایت نفاست سے کٹی ہوئی خشک خوبانیاں ایک لی سپون اور نج جوس
آ دھا کپ پانی آ دھا کپ شہد
ایک لی سپون یمن جوس آ دھا کپ نیبل سپون ویٹ جرم
آ دھا کپ کشمکش آ دھا کپ ناریل کاسفوف
ایک کپ ملک پاؤڈر
ایک کپ کا تیسرا حصہ کئے ہوئے باوام (چھوٹے بچوں کے لئے پیس لیں)
خوبانی بارز کو بڑھ پہپہ (باریک کاغذ) میں لپیٹ کر چھوٹی چھوٹی توکریوں میں
میز پر سجایا ہوا بہت بھلا لگتا ہے۔ ایک ساس پین میں پانی اور خوبانیاں ڈال کر
ابالیں اور زم ہونے تک پکائیں۔ آنج سے اتاریں اور باقی چیزیں ڈال کر چھپی
طرح مکس کریں۔ اسے چکنے کھلنے پین میں پھیلایا دیں اور نکلے کرنے سے پہلے کئی
گھنٹے فریج میں رکھیں۔

اور نجفلف چاریا پانچ افراد کے لئے

ڈھائی کپ اور نج جوس ایک لی سپون گیلان
۲ نیبل سپون شہد (سفیدی اور زردی علیحدہ کر لیں)
اور نج کو دو حصوں میں کاٹیں اور خول سنبھال لیں۔
اور نج جوس کو ایک پیالے میں ڈال لیں۔ اس پر گیلان چھڑ کیں اور تمیں منٹ

پڑا رہنے دیں۔ ایک ساس پیس میں اور نج جوں اور شہد کو ابال کر نیچے اتار لیں۔ اور اچھی طرح پھینٹی ہوئی انڈوں کی زردی ملادیں۔ اور مسلسل ہلاتے رہیں۔ انڈوں کی سفیدی پھینٹ لیں اور اور نج کے ٹھنڈے آمیزے پر پھیلا دیں اور پھر اسے اور نج کے خول میں ڈالیں اور سیٹ کرنے کے لئے فرتیج میں رکھیں۔

جیلی اور نج

جوں کو استعمال کرتے ہوئے اور نج کے خول سنبھال کر رکھیں یہاں تک کہ آپ ہر مہمان کو فردا فردا ایک خول پیش کر سکیں۔ دھیان رہے کہ خول میں کوئی سوراخ نہ ہو۔ اس کے بعد انہیں بڑے میں رکھیں۔ دو تین مختلف رنگوں کی جیلی تیار کر کے نہایت احتیاط کے ساتھ ان خلوں میں ڈالیں اور سیٹ کرنے کے لئے فرتیج میں رکھ دیں۔ پیش کرنے سے ذرا پہلے ہر آدھے خول کو دو یا (بڑے اور نج کی صورت میں) تین ٹکڑوں میں کاٹ لیں انہیں نہایت خوبصورتی کے ساتھ پلیٹ پر سجائیں۔

بنانا کیک

۱۲۵	اگرام مکھن	۳ چھوٹے کیلے
۱۸۵	اگرام چینی	ایک چھوٹا نیلا
۱۸۵	اگرام آٹا	ایک چھوٹا سوڈا بائی کاربو نیٹ

۱۲ اندے

ایک بڑا چیج دو دھن

مکھن اور چینی کی کریم بنا لیں اور اس میں اندے مکس کر لیں۔ پھر کچھے ہوئے کیلئے ملا لیں۔ و نیلا اور دو دھن میں سوڑا حل کر لیں۔ آٹا اور دو دھن باری ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ اس آمیزے کو کیک ٹین میں اندھیل دیں اور ڈھنی آنچ کے اوون میں تیس منٹ تک پکائیں اور ٹھنڈا ہونے پر آسنگ کر لیں۔

پارٹی سینڈوچ

گندم کی روٹی کے چھٹی میٹر چوکو رکڑے کاٹ لیں۔ ان پر مکھن لگائیں اور اوپر اندے سجاویں۔ روٹی پر زیادہ چیزیں نہ پھیلائیں ورنہ بچے سے سنجانا مشکل ہو جائے گی۔ اب کھلے سینڈوچ کو سجانے کے لئے چہرے یا ڈیر اسے بنالیں۔ ان کے لئے کدو کش کی ہوئی گاجر، کشمش، پنیر کی سٹاک اور ٹماڑ کے چھوٹے ٹھوٹے نکلے استعمال کر لیں۔

انچ اڑھائی تین سال کے بچوں کے لئے

سکول سے پہلے کنڈ رگارٹن وغیرہ میں یہ وقت بچوں کے لئے بہت اہم ہوتا ہے۔ ان کا سارا سارا دن نئی چیزوں کو دیکھنے اور جانچنے میں صرف ہو جاتا ہے۔ الہذا کھانا پینا ان کے اذہان میں ثانوی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ یہ ان کے کھیل وغیرہ میں شامل ہوتا ہے۔ تاہم جو بچہ سہ پہر کو واپس آ کر آپ سے ملتا ہے تو اس کی کافی

قوت صرف ہو چکی ہوتی ہے۔ بچوں کو بلکلی پھلکی غذاء دے کر ان کی قوت اور خوشی کو برقرار رکھیں۔ چھوٹے بچوں کے ساتھ لیچ بھیجننا نہایت ضروری ہے۔ کھانا نہایت سادہ ہونا چاہیے، جو آپ کے دھیان دیے بغیر آسانی سے کھایا جا سکے اور دوپہر تک تازہ بھی رہ سکے۔

سینڈوچ

سینڈوچ چھوٹے بچوں کے لیے اچھا لیچ ہے اسے قلیل وقت میں کھایا جا سکتا ہے۔ اسے کمپڑا بھی آسان ہے۔ صرف آنما استعمال کریں۔ اس کے اندر پروٹین والی چیزیں مثلاً انڈا، گوشت، مچھلی، مکھن، سویا یعنی، دودھ یا فروٹ جوں کے ساتھ ملا کر اخروٹ وغیرہ اور تازہ پھل بھرنے چاہئیں۔

مندرجہ ذیل چیزوں کے مرکبات استعمال کریں۔

تازہ پھلوں کے گودے کے ساتھ بلینڈ کیا ہوا پنیر پسی ہوئی کشمش (پنیر اور کشمش کو اکٹھا کر کے بلینڈ کر لیں) کدو کش کی ہوئی گاجر اور پے ہوئے اخروٹ۔

دیکی پنیر

کدو کش کی ہوئی گاجر اور پسی ہوئی کشمش کے ساتھ۔ پورا ابال کر کئے ہوئے انڈے کے ساتھ۔ پسی ہوئی اجوان خراسانی کے ساتھ۔ کئی ہوئی انناس کے ساتھ۔ کدو کش کیے ہوئے سیب کے ساتھ۔ کئی ہوئی نرم پنیر اور ٹماٹر کے ساتھ۔

پورا بال کر کٹا ہوا یا کچلا ہوا انڈا مندرجہ ذیل چیزوں کے ساتھ۔
سارڈن کٹی ہوئی سلا د کدو کش کی ہوئی گاجر۔

مچھلی

ٹونایا سالم مچھلی مندرجہ ذیل چیزوں کے ساتھ۔ پورا بال کر کچلا ہوا انڈا
لیموں کا رس اور کدو کش کی ہوئی گاجر۔ پسی ہوئی اجوان کن خراسانی۔

گوشت

گوشت پکا کر اس کے چھوٹے چھوٹے نکلے کر لیں اور انہیں آکھا کرنے
اور ربو بت رکھنے کے لیے ٹھوڑا سا دودھ استعمال کریں۔ چکن، بھیڑ، گائے کے
گوشت کو دم پختہ سبب، کنے ہوئے ٹماڑ، فروٹ چلنی اور کدو کش کی ہوئی گاجر یا
اجوان کن خراسانی کے ساتھ لگائیں۔

سویا بین

۲۳ چیچ جوان کن خراسانی

ایک چیچ سویا ساس

۱۸۵ گرام سویا بین

ٹھوڑا سا گوشت

<p>چکنی بھرنمک</p> <p>ایک پیاز کٹی ہوئی</p> <p>کالی مرچ پسی ہوئی</p> <p>ایک گلھاہسن (ضروری نہیں)</p>	<p>لئے سویا بین نہایت قوت بخشن غذا ہے آپ اسے سادہ طور پر پیا اس پر ٹوٹا گا کر بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اسے ابلے ہوئے انڈے اور اجوائن یا کٹی ہوئی پنیر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ سویا بین کو پکا کر گلا لیں۔ اس کے بچے ہوئے پانی کے ساتھ ملا کر مرکب کو اچھی طرح مسل لیں۔ گوشت کو تحمودی دیر گھنی میں پکا کر میں اور پھر پیاز، ہسن اور اجوائن ڈال کر پیاز سرخ کر لیں۔ پیاز اور اجوائن خراسانی کو سویا بین کے مرکب میں ملا دیں۔ اس کے بعد باقی ساری چیزیں ملا کر اچھی طرح مکس کریں۔ بیچ دار ڈھکن والے جار میں ڈال کر فرتنج میں رکھلیں۔</p> <p>اس بنیادی نشخ کو استعمال میں لاتے ہوئے اپنے بچے کی پسند کے مطابق آپ اس میں تازہ یا خشک مصالحہ جات بھی ملا سکتے ہیں۔</p>
--	--

چکن نشخ

<p>کچھی گاجر اور دارچینی کی لکڑیاں</p> <p>مسلا ہوا چکن</p> <p>کشمش کے پیکٹ</p>	<p>پنیر</p> <p>تازہ سبزیاں۔ براؤں چاول اور سلاو</p> <p>ابلے ہوئے انڈوں، ٹماٹر اور گوشت کے لکڑوں کی سلاو</p>
--	---

۲ کپ میدہ

ڈیڑھ کپ آٹا
چکنی بھرنمک

۰۹ گرام مکھن

ایک یا ڈیڑھ کپ دودھ (چند لیموں کے قطرے ڈال کر پختا ہیں)

اوون کو گیس مارک (425F C 7,215) پر پہلے ہی سے گرم کر لیں۔

آٹے اور میدے کو ملا کر ان میں نمک ڈال دیں۔ اس آمیزے کو مکھن میں مسلیں بیباں تک کر آٹا روٹی کے ٹکڑوں کی طرح ہو جائے یعنی گھٹلیاں سی بن جائیں۔ اس میں پنیر ڈال لیں درمیان میں کنویں جیسی گہرانی کر لیں اور اس میں پختا ہوا دودھ بھر دیں۔ اسے چکلے پر انڈیل کر آٹے کی طرح گوندھ لیں اور دباؤ کر ۲ سینٹی میٹر موٹائی رکھیں اور گول ٹکڑے کاٹ لیں۔ چکنے ٹرے میں انڈیل لیں۔ اوپر دودھ پھیلا کیں اور تقریباً بارہ منٹ تک اوون میں پکائیں۔

گھر پتیار کردہ بسکٹ بھی کبھی کبھی بھار بچوں کو بطور لخ دیں۔ اس کے علاوہ ایک چھوٹا سیب یا کیلا بھی ایک وقت کی خوارک کیلئے کافی ہیں۔ گرمیوں میں پلاسٹک کی بوتوں میں جوں، دودھ وغیرہ رات بھر فریزر میں رکھیں اور اگے دن بچوں کے ساتھ سکول میں بھیج دیں۔ رات بھر بند ڈبوں میں یوگرٹ فریزر کر کے بھی ساتھ دیا جاسکتا ہے۔ لخ کے وقت بھی وہی ہلا کر دیا جا سکتا ہے مگر یہ بھر بھی ٹھنڈا اور تازہ رہتے گا۔

صحیح ناشتہ کے بعد اور دوپھر سے پہلے اگر بچوں کو جھوڑا سانپیر، سیب یا کیلا، کشمش کا پیکٹ وغیرہ دیا جائے تو لمحے سے پہلے ان کی کافی تسلی ہو جاتی ہے۔ ویسے بھی یہ ساری چیزیں خاصی قوت بخش ہوتی ہیں نشاستہ دار اور چینی والی غذا میں دینے سے اجتناب کریں۔ یہ وقت طور پر بچوں کو خوش رکھتی ہیں مگر بعد میں ان کے دانت خراب ہونے کے خاصے امکانات ہوتے ہیں۔

کپن کرافٹ

بعض اوقات ہم بھول جاتے ہیں کہ بچے مختلف چیزوں سے بننے ہوئے کھلونے بہت پسند کرتے ہیں۔ یہ گھر پر آسانی سے تیار کئے جاسکتے ہیں۔ یہ مہنگے بھی نہیں ہوتے اور بچے نہایت خوش بھی ہو جاتے ہیں۔

پلے ڈف

ایک چیز جس سے بچے کبھی نہیں اکتاتے، وہ ہے پلے ڈف۔ اس سے بچے کی پسند کی ہر چیز تیار کی جاسکتی ہے۔ پلے ڈف کی شکلیں اور نقوش بچے کی پسند اور ذہنی تخيیل تک محدود رہتے ہیں۔

پلے ڈف بنانے کا طریقہ

میٹھارنگ (اگر پسند ہو)

۲ کپ میدہ

پانی

چنگلی بھرنمک

ایک ٹیبل سپون تیل

آٹا میں نمک اور پانی مکس کر کے گوندھ لیں، پھر اچھی طرح سے تیل میں ملا لیں۔ اگر آپ پلے ڈف کو رنگ دینا چاہیں تو جھوڑے سے پانی میں رنگ ڈال کر چند قطرے اس میں ملا دیں۔

پکا ہوا پلے ڈف

ایک ٹیبل سپون تیل

نمک حسب ضرورت چند قطرے نو ڈھندر

ایک کپ ٹھنڈا پانی

ساری چیزیں اکٹھی کر کے ہلکی آنچ پر تین سے پانچ منٹ تک پکائیں۔ یہ پلے ڈف ائیرٹائم بند پلاسٹک بیگ میں مہینوں رکھا جاسکتا ہے۔ اسے فرج کے اندر یا باہر دونوں طرح سے رکھا جاسکتا ہے۔

فنگر پینینگ

باہر ساتھ لے جانے کے لئے فنگر پینینگ نہایت غصب کی چیز ہے۔ یہاں تک کہ نہایت چھوٹے بچے بھی اسے بہت پسند کرتے ہیں۔ پینٹ کی ساخت اور چمکدار رنگ ظاہر ہے کسے اچھے نہیں لگتے۔ پینینگ کرنے کے لئے بچے اخبار یا بڑی شیٹ استعمال کریں۔

ٹیبل سپون چینی ۲ کپ ٹھنڈا پانی
آدھا کپ کارن فلور فوڈ ہلینگ

ایک ساس پین میں آتا اور چینی ملائیں پھر پانی ملائیں۔ وہی آنچ پر ہلاتے جائیں یہاں تک کہ سب کچھ بلینڈ ہو جائے۔ آمیزے کو تین یا چار حصوں میں تقسیم کر لیں اور ہر حصے کو الگ الگ رنگ دیں۔ پینٹ کرنے کے لئے روئی استعمال کریں۔

کوچ

کوچ کاغذ، کارڈ بورڈ یا کپڑے پر مختلف چیزوں پر گونداگا نے کا ایک فن ہے۔ اس پر زیادہ خرچ نہیں آتا اور بچہ دیر تک خوش بھی رہتا ہے۔ بچوں کو کوچ کے لئے اپنی پسند کی چیزیں منتخب کرنے دیں۔ پتے، چھاڑیاں، پرانے سالگردہ کے کارڈز اور میگزین کی کلنگ، سوتی دھاگے کی ریل، نگین کاغذوں کے نکلے، بچوں کی پتیاں وغیرہ، اپنے فرش پر بہت زیادہ اخبار نہ پھیلائیں بڑے برش، گوند کے بڑے برتن وغیرہ پاس رکھیں۔ کوچ باہر پکنک وغیرہ میں بہت بھلے لگتے ہیں لیکن بارش کے دن انہیں باہر نہ لے جائیں پکھل جائیں گے اور ساری خوبصورتی خراب ہو جائے گی۔

گلو(گوند)

ایک کپ آٹا پانی
آٹے میں اتنا پانی ڈال کر پکائیں کہ لیس بن جائے جو نہ زیادہ سخت ہو اور نہ
ہی زم یہ لیس کو لٹھ اور پیپر میچ کے لئے بہت اچھا کام کرتی ہے۔

چار یا پانچ افراد کے لئے پیپر میچ

پیپر میچ بنانے کے دو طریقے ہیں اور دونوں ہی بہت فنی ہیں۔

پہلا طریقہ

خبر۔ بہت سارے پانی کا پیالہ
خبر پیچھے تیار کرو، بہت سی آٹے کی ماٹ
خبر کی چھوٹی چھوٹی قطریں کر کے پانی کے پیالے میں ڈال دیں۔ سامان کو
کوکرنے کے لئے اور پیپر و یم جیلی مل دیں۔ کوئی پرانا ملکنگ کا (پلاسٹک)
پیالہ، جو زیادہ بڑا نہ ہو، ٹھیک رہے گا۔ اب اخبار کے بھیگے ہونے مکڑوں کی پیالے
کے باہر تھیں لگا دیں اور پرخوب اچھی طرح گوند لگائیں۔ یہ تھیں لگاتے جائیں
یہاں تک کہ چھپی میٹرمولی تہہ لگ جائے روم پر پیچھے میں بہت سارے دونوں تک
خٹک کریں پھر پلاسٹک کے پیالے سے اتار لیں۔

دوسرا طریقہ

پرانی چیزوں کا ڈھیر

بہت سارے اخبار

پانی کا پیالہ

گھر پر تیار کردہ بہت ساری گوند

پیپر میچ کو ماڈلنگ کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔ سینٹر کے طور پر نامک

پیپر کے کارڈ بورڈ روول، پیپر ناول روول اور چھوٹے بکس استعمال کریں۔

اخبار کے چھوٹے چھوٹے نکلوے کر لیں۔ آپ کو کم از کم چار کپ درکار

ہوں گے۔ کاغذ کو پانی میں کئی گھنٹے ڈبو کیں۔ رات کو ہی ڈبو کیں تو بہتر ہو گا۔ کسی

کپڑے کے اوپر سے کاغذ اور پانی انڈلیں یا پھر پانی نچوڑ لیں۔ کاغذوں کو واپس

پیالے میں ڈال دیں اور آہستہ آہستہ گوند ملا کیں یہاں تک کہ آمیزہ مٹی نما نظر

آنے لگے۔ پھر پیپر میچ کو درمیان میں ڈھیر کر دیں یا انڈوں، گیندوں اور چھوٹی

گڑیوں کی شکل بنالیں۔ روم ٹپ پر چھر میں کئی دن تک خشک ہونے دیں۔

گھر کی فالتو چیزوں کا استعمال

۱۔ آنس کریم کے ڈبے، باتھروم، کارسٹور کرنے، عمارت بنانے اور گڑیوں

کو نہلانے کے لئے استعمال کیے جاسکتے ہیں۔

۲۔ مکھن، دلی چنی اور یوگرٹ کے مختلف سائز کے ڈبے بھی۔

۳۔ نامک پیپر کے کارڈ بورڈ روول وغیرہ ڈرم کے طور پر استعمال کیے جاسکتے

ہیں۔

۴۔ ہر شکل اور ہر سائز کے کارڈ بورڈ بکس کئی قسم کے کاموں میں استعمال میں لائے جاسکتے ہیں۔ ہر کارڈ سے بڑی بڑی کاریں اور کشمکشیاں تیار کی جاسکتی ہیں جن میں پچھے سوار بھی ہو سکیں۔ ان سے اور بھی بہت سی خوبصورت چیزیں تیار کی جاسکتی ہیں۔

۵۔ آٹے کی سویاں۔۔۔ سادی یا نگین، جیولری بنانے کے کام آتی ہیں۔ انہیں سجاوٹ کے طور پر بھی استعمال کیا جاسکتا ہے۔

۶۔ خشکل اور خالی دودھ اور جوس کے ڈبوں کو صاف کریں۔ دو ڈبے ایک ہی سائز کے لیں اور پر سے منہ پورے کھول لیں۔ پھر ایک بلاک بنانے کے لئے ایک دوسرے کے ساتھ جوڑیں۔ وہ جیسے ہیں ویسے ہی استعمال کریں یا پھر ان پر نگین کاغذ چڑھالیں۔ واٹر کلر بھی کیا جاسکتا ہے۔

۷۔ چھوٹے اور بڑے سائز کے براؤن پیپر بیگ اکٹھے کریں۔ بڑے پیپر بیگ سے ماسک بنایا جاسکتا ہے۔ آنکھیں اور ناک کاٹ لیں اور نقوش پینٹ کر لیں۔ زیادہ بڑے بیگ لباس کے طور پر استعمال کیے جاسکتے ہیں۔ بس بازوؤں کی جگہ سوراخ کر لیں، ہر کی جگہ سوراخ کر لیں اور منہ پر ماسک چڑھالیں۔ چھوٹے بیگ میں کاغذ بھر کے ان کو باریک لکڑی پر گھٹا کر کے پتلیاں بنائی جاسکتی ہیں۔ بیگ کو بھرنے سے پہلے چہرے پر ڈرائیگ کر لیں۔

آئیے! سب کچھا کٹھا کر لیں

آپ جانتے ہیں کہ آپ کی فیملی کیما، کتنا اور کب کھانا پسند کرتی ہے۔ سینٹر سسٹر یا ڈاکٹر آپ کے ہر بچے کے لئے مناسب فردا فردا کھانا تجویز کر سکتی ہے۔ آپ کے بچے کے لئے کچھ کھانے تجویز کیے جا رہے ہیں۔ جن میں کم از کم چیزیں استعمال کی جاتی ہیں۔

۲۴ مہ کے لئے

ابتداء میں یقیناً آپ کے بچے کی خوراک دودھ ہے۔ لیکن چار سے چھ ماہ کے درمیان اسے سخت چیزیں دینا بہتر ہو گا۔ دن بھر میں ایک مرتب تجویزی اسی کوئی سخت چیز دیں (باب نمبر دو میں دیکھیں) اس مرحلے میں فروٹ پوری سے بچھنضوظ ہوتا ہے۔ دہی اور سبزیوں کا گودا بھی دیں۔

صحیح کی خوراک

بچے کو دودھ دینے کے بعد بچے کی بھوک کے مطابق تجویز اسکیلا اور دہی اچھی طرح پھینٹ کر دیں۔

دوپھر کی خوراک

دودھ دینے کے بعد بچے کو تھوڑا سا گاجر کا کشڑا یا کدو کا سوپ دیں۔ بھنے ہوئے آلو اور سب کا گودا بھی اچھے ہیں۔

رات کی خوراک

دودھ دینے کے بعد تھوڑے سے چاول دیں۔ چاول کریم یا جواہر کیا اس عمر میں بچے کو نہایت مطمئن کرتا ہے اور بچہ نیند بھر کے سوتا ہے۔

۶ سے ۹ ماہ کے لئے

جب آپ بیدار ہوں تو گھر کے دوسرے افراد کے ساتھ بچے کو دودھ دیں۔ ناشتہ: اس عمر کے بچوں کے لئے مندرجہ ذیل غذا میں ناشتے کے لئے بہت اچھی ہیں۔

دو سے پانچ چھپ کا ہوا نام، کیلا یا سب ۲ انگلیوں کے برابر ٹوٹ یا ویٹ جرم۔ یوگرٹ کا ناشتہ، کچھ ہوئے سب یا کدو کش کیے ہوئے سب کے ساتھ۔ ابلا ہوا ایک آڈھے کیلے کے ساتھ۔

اگر آپ کسی دفتر وغیرہ میں کام کرنے والی ماں ہیں اور آپ کے پاس بچے کو ایسی غذا میں دینے کا وقت نہیں آپ جلدی میں ہیں اور صبح چھپ سے کھانا دے کر

وقت ضائع نہیں کر سکتیں تو فروٹ رانڈے کی زردی / دودھ / ویٹ جرم بلینڈ کر کے بولی میں انڈیل لیں اور باقی آمیزہ فیملی کے دوسرے ممبران کے لئے گلاسون میں انڈیل دیں۔ ناشتا بہت جلد تیار ہو جائے گا۔

دوپہر کا کھانا

انڈے کی زردی یا دو تین چیج، گوشت یا دودھ
مچھلی۔

دو تین چیج سبزیاں ۲ چیج تازہ یادم پختہ فروٹ یا کھیر وغیرہ۔
دم پختہ ٹکنی گاجر اور مرکے گودے کے ساتھ اپل کشڑا
سینہ مچھلی۔ آلو کے میٹھے کشڑا اور کدو کی پوری کے ساتھ بنا ناپڑنگ

سہ پہر

فروٹ جوں
لنج سے ذرا بکلی غذا ہونی چاہیئے۔ پہلے بچے کو دودھ پلائیں پھر موسم سرما میں
تمور اس سبزیوں کا سوپ اور موسم گرما میں یوگرٹ اور فروٹ دیں۔

۹ سے ۱۲ ماہ کے لئے بیدار ہونے پر

دودھ دیں اور اگر بہتر سمجھیں تو اس وقت فروٹ جوں دے دیں اور ناشتا

کے وقت دو دھنے دیں۔

ناشنا

بے بی موسلی اور دم پختہ سبب۔ ٹوست یا ویٹ جرم۔ یوگرٹ کا ناشنا کچلے ہوئے کیلے کے ساتھ۔

جو کا دلیا کدو کوش کیے ہوئے سبب کے ساتھ
ٹوست اور مکھن
ابلا ہوا انڈا انگلی جتنے ٹوست کے ساتھ
دم پختہ سبب اور یوگرٹ

دوپھر سے پہلے

فروٹ جوس

لیچ

دودھ دیں۔
گوشت۔۔۔ ۲ چیچ بیسڑی، مچھلی یا خرگوش
سبریاں۔۔۔ ۲ چیچ
تازہ یا پکا ہوا فروٹ اور کھیروں غیرہ

دم پختہ چکن، دم پختہ چکن آلو کے بھرتے کے ساتھ یا خرگوش کا گوشت گاجر کے گودے اور پھلیوں کے ساتھ۔

اس عمر کے تجھے ہونے پچے کے لئے مندرجہ بالا غذا میں بدل بدل کر دیں۔

فروٹ رانڈ اردو دھی یا جوس بلینڈ کر کے بوٹل یا کپ میں ڈالیں۔ اس میں محنت بھی زیادہ نہیں لگے گی۔ یہ ڈبوں کی خوراک کا اچھا نام البدل ہے۔ اگر آپ صبح کے وقت زیادہ مصروف ہیں اور دوپہر کو دیر سے گھر لوٹتی ہیں اس وجہ سے لٹخ تیار نہیں کر سکتیں اور آپ کے پچے نے دوپہر کے وقت بلینڈ کیا ہوا دو دھلیا ہے تو اسے رات کے وقت گوشت یا انڈا اور سبزیاں دیں۔

سمپاہر

فروٹ جوس، آدھا کیلا

ڈنر

دودھ۔

سبزیوں کا سوپ۔۔۔ ٹھنڈا یا گرم

بیوگرٹ اور تازہ یا دم پختہ فروٹ

گاجر کا سوپ۔۔۔ پنیر کے ساتھ

ٹوست اور مکھن

تازہ یا دم پختہ فروٹ یا کسی موسمی تازہ پھل کے ساتھ دہی

ایک سے ڈیڑھ سال کے لئے

اس عمر میں مائیں اکثر اپنے بچوں کے دو پہر سے رات تک کے کھانے میں تبدیلی کرتی ہیں۔ اس سے بچے کو یقیناً کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ اس کے لیے کوئی سامنا سب اور آسانی سے وقت نکال سکتی ہیں۔ بچے دیے ہوئے کھانے دے کر بچے کی خوراک میں مناسب تبدیلی کی جاسکتی ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ رات کو آپ کا بچہ اہم غذا لینے میں اکتا ہست محسوس کرتا ہے تو اس کے کچھ اور بڑا ہونے تک دو پہر کو بھی کھانا دیں۔

بیدار ہونے پر

دودھ یا فروٹ جوں اور پھر ناشے پر دودھ۔

ناشہ

دم پختہ سیب کے ساتھ گرم کارن سیر میل۔

ایک یا آدھا بلا ہوا انڈا ٹوست اور کھن یا وہیٹ جرم، یوگرٹ کا ناشہ، دم پختہ خوبانیوں کے ساتھ۔

ایک یا آدھا بلا ہوا انڈا ٹوست اور کھن یا دلیا کچھے ہوئے کیلے کے ساتھ۔

ایک یا آدھا اندا
ٹوست اور مکھن

دو پھر سے پہلے

فروٹ جوں، پنیر کا نکلا

دو پھر کا کھانا

دہی، کسی تازہ یا دم پختہ فروٹ کے ساتھ، اس ویٹ جرم کا چھڑکاو۔
ٹوست اور مکھن یا پنیر۔ دودھ یا ٹھنڈا یا گرم سبزی کا سوپ مثلاً کدو کا سوپ اور
پنیر۔

ٹوست اور مکھن
کیلا اور دہی
دودھ یا پکی ہوئی سبزی یا
کشڑا اور آلو بخارا
دودھ
ٹوست اور مکھن یا شہد

سہ پھر

فروٹ جوں

گوشت، مچھلی یا پلوٹری
یوگرٹ فروٹ، دودھ یا ٹونا
آنس کریم اور دم پختہ فروٹ

تازہ یا دم پختہ فروٹ کے ساتھ ملک پڈنگ۔ گاجر یا آلو گوشت۔
دودھ یا کریم سس میں مغز پالک اور آلو کی بھجیا کے ساتھ شہد مل افروٹ۔

دودھ۔

ڈیرہ سے دو سال کے لئے

بیدار ہونے پر

اس کا دار و مدار آپ کے بچے پر ہے۔ کچھ بچے دودھ یا فروٹ جوں لینے میں
صبر نہیں کرتے اور کچھ ناشتے کے وقت تک بخوشی کھیلتے رہتے ہیں۔

ناشنا

اس عمر میں اکثر بچے پہلے کی طرح بھوک محسوس نہیں کرتے بلکہ بعض اوقات تو
مکمل طور پر ناشنا کرنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ لہذا آپ کو اسے معمول سے ہٹ
کر چیزیں دینی چاہئیں اور جب تک بچہ تبدیلی نہ چاہے، اسے وہی خوراک دیتے

رہیں۔

نمونہ:- کیلا اندھا رو دھ بلینڈ کر کے بوٹل یا کپ میں اندھیل لیں یا مکھن، فرانی کیا ہوا اندھا اور ٹوٹ۔ مکھن یا دیسی پنیر پین کیک دم پختہ سیب کے ساتھ۔

دوپہر سے پہلے

فروٹ جوں اور پنیر کا نکلا

لچ

سینڈوچ یا روٹی کے ساتھ کھجی، پنیر اور گاجر، مکھن
کوئی سا پھل یا یوگرٹ اور کوئی موسمی پھل
پنیر کا نکلا یا کدو کش کیا ہوا سیب
دودھ۔ گرم یا ٹھنڈا سبز یوں کا سوپ
گندم کی روٹی دودھ۔

سہ پہر

فروٹ یا فروٹ جوں

اپنے بچوں کو فیملی کے دوسرا افراد جیسی خوراک دیں۔ اس سے آپ کو کوئی خاص محنت نہیں کرنا پڑے گی۔

نمونہ:- مندرجہ ذیل کھانوں میں بہت سے ذاتی ہیں جنہیں با آسانی اپنایا جاسکتا ہے۔

آلو اور ملی جلی بہزیوں کے ساتھ کلکجی

کسٹرڈیا دم پختہ خوبیاں

دودھ یا آلو کے پین کیک کے ساتھ پالک کے رول
تازہ کیلے یا کسی دوسرے موسمی پھل کے ساتھ گھر پہ تیار کردہ آنس کریم
دودھ یا ویٹ جرم اور پالک کا ساگ
مصالحے والے چاول۔ دودھ۔

بچے کے ابتدائی دن رہنمائی کی علامات

نو زائدیہ کے ابتدائی دن بہت اہم ہوتے ہیں، پہلی دفعہ ماں بننے کے مرحلے سے گزرنے والی خاتون کو ان دنوں کی اہم باتوں کا اگر پہلے سے علم نہ ہوتا کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جن گھروں میں ماں اکیلی ہی بچے کی دلکشی بھال کی ذمے دار ہے وہاں اسے اور جہاں گھر کے اور افراد بھی اس کے ذمے دار ہیں، وہاں انہیں بھی بچے کی دلکشی بھال کے متعلق بنیادی باتوں کا علم ہونا چاہیے اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بچے کی نگہداشت کے متعلق باہر سے بھی انہیں مشورے ملیں

گے۔ یہ فیصلہ کرنا کہ کون سا مشورہ قابل عمل ہے اور کون سا نہیں یہ بچے کے گھر والوں خصوصاً والدین کا کام ہے۔ اور اس سلسلے میں انہیں اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کے علاوہ معلومات کے دیگر ذرائع بھی استعمال کرتے رہنا چاہیے۔

علامات جواہجی نہیں:

بخار کسی بھی عمر میں انسانی جسم کا نارمل درجہ حرارت ۳۷ ڈگری سینٹی گریڈ یا ۹۸.۶ ڈگری فارن ہیٹ ہوتا ہے۔ لیکن دن کے مختلف اوقات میں یہ درجہ حرارت کسی قدر کم ہوتا اور بڑھتا بھی ہے جس کا انحصار انسان کی سرگرمیوں پر ہے۔

ورزش کے دوران یہ قدرے بڑھ جاتا ہے اور سوتے ہوئے ذرا کم ہو جاتا ہے۔ نوزائدہ بچوں میں جسم کے درجہ حرارت کو کنٹرول کرنے کا نظام ابھی پوری طرح مستحکم نہیں ہوتا چنانچہ وہ بیماری یا بیرونی ماحول کے درجہ حرارت تبدیل ہونے سے فوراً متاثر ہوتے ہیں۔ اس لئے ان کے جسم کے بڑھے ہوئے درجہ حرارت یا بخار کو معمولی نہیں سمجھنا چاہیے اگرچہ بچے کا درجہ حرارت نارمل سے زیادہ ہے تو ایسا وبا توں کی وجہ سے ہو سکتا ہے اول اگر شدید گرمی کے دن ہیں اور بچے کو بہت پیٹ کر رکھا گیا تو بخار ہو سکتا ہے، ایسا بچہ جو بخار کے باوجود بہت زیادہ بیمار بچے کی طرح دکھائی نہیں دیتا ٹھیک طرح سے دودھ پیتا ہے، پانچاہ اور پیشاپ ٹھیک کرتا ہے۔ بیماری کی دیگر علامات بھی اس میں نہیں اسے اس کے وزن کے مطابق پیرا سینا مول کا شربت دینے اور ماحول کی گرمی ختم کرنے سے بخار اتر

جاتا ہے، دوسرے وہ بچے ہیں جو واقعی بیمار ہیں، ان وجوہات میں سب سے اہم جراثیم سے ہونے والی بیماری یا انفلکشن ہے، جراثیم سے بیماری میں بتا ہونے والے بچے دو دھنے پینا، پیشتاب نہ کرنا یا کرتے ہوئے رونا، پاخانے بہت پتلے اور زیادہ مقدار میں آنا بہت زیادہ رونا یا بالکل نہ رو سکنا۔ دوسرے پڑنا، یرقان ہونا وغیرہ جیسی علامات میں کچھ موجود ہو سکتی ہیں۔

جسم ٹھنڈا ہو جانا

جیسے جسم کا درجہ حرارت بہت زیادہ بڑھنے کو بچے کا جسم کثروں نہیں کرتا، ویسے ہی بہت ٹھنڈا ہونے پر بھی قابو نہیں پاسکتا مگر دی کے موسم میں اگر بچے کے کپڑے ناکافی ہیں یا اسے اچھی طرح لپیٹنا نہ گیا ہو، تو نارمل بچہ بھی بہت ٹھنڈا ہو سکتا ہے۔ لیکن ٹھنڈا ہونا صرف ماحول کا درجہ حرارت کم ہونے کی ہی نشانی نہیں، مختلف بیماریوں میں بچے کا درجہ حرارت بہت کم ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈا ہو جانے والے بچے کو سب سے پہلے فوراً گرم کرنا چاہیے۔ اچھی طرح لپیٹنا، گرم کپڑے پہنانا، گرم پانی کی بوتل یا ہیٹر کے قریب کرنے یا گود میں لینے سے بچے کے درجہ حرارت کو نارمل کیا جاسکتا ہے۔ وہ بچہ جس کا درجہ حرارت بہتر ہونے پر نارمل بچے کی طرح ہو جائے، دو دھنیک طرح سے پینے لگے اس میں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں لیکن وہ بچہ جو گرم کرنے کی تمام کوششوں کے باوجود ٹھنڈار ہے، دو دھنے پی سکے یا بیماری کی دوسری علامات اس میں ظاہر ہو جائیں۔ اسے ڈاکٹر کے پاس لے

جانا اور مشورے کے مطابق علاج کرنا ضروری ہو جاتا ہے، اسی طرح وہ بچہ جو وقت سے پہلے پیدا ہو یا جس کا پیدائشی وزن بہت ہی کم تھا ۵.۵ کلوگرام سے کم ہو، اسے بھی ٹھنڈے سے بچانا بہت ضروری اور ٹھنڈا ہونے پر ڈاکٹر سے مشورہ لازمی ہو جاتا ہے۔

جسم نیا ہونا

ابتدائی دنوں میں نہلانے وھانے کے بعد نارمل بچوں کو بھی اگر بچھے کے نیچے لے آئیں یا پیرونی ماحول بہت ٹھنڈا ہو اور بچے کے ہاتھ پاؤں نگے ہوں اور ہاتھ اور پاؤں دونوں میں نیلاہٹ دھائی دینے لگتی ہے۔ یہ نارمل بات ہے اور بعض بچوں میں کئی ماہ بلکہ کئی ہر سوں تک دھائی دیتی ہے یعنی موجودہ تھی ہے۔ لیکن اگر بچے کے ہونٹ، ناک کی نوک یا زبان نیلے رنگ کی دھائی دے تو اسے سایا نوس کہتے ہیں اور یہ بیماری کی علامات ہیں، بچے کے دل میں پیدائشی طور پر ایسا نفس جس کی وجہ سے صاف اور گنداخون اکٹھے ہو جاتے ہوں یا پھیپھڑوں میں ایسی بیماری کہ گنداخون کمکمل طور پر صاف نہ ہو رہا ہو یا، ایسی انفیکشنز کہ جن میں جسم کا دورانِ خون بری طرح متاثر ہو رہا ہو، کے نتیجے میں نیلاہٹ ایک علامت کے طور پر ظاہر ہوتی ہے۔ ہونٹوں، ناخنوں اور زبان کی نیلاہٹ ایک خطرناک علامت ہے، بچے کے فوراً ممتند معالج کے پاس لے جانا چاہیے۔

سانس سیز یا بے ترتیب ہونا

ابتدائی چند ماہ میں بچے کی سانس کی رفتار بڑی عمر کے لوگوں کی نسبت کافی زیادہ ہوتی ہے۔ پہلے دو ماہ میں بچہ تقریباً ۲۰ بار فنی منٹ کی رفتار سے سانس لیتا ہے، اسی طرح پہلے ایک ماہ کے دوران بچے کی سانس کبھی بے ترتیب ہو سکتی ہے اور بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ اس کی سانس باکل رک گئی ہے۔

اگر بچے کی سانس کی رفتار بہت تیز ہو گئی ہو اور گنتی کرنے پر وہ ۲۰ بار فنی منٹ سے زیادہ نکلنے یا سانس کے ساتھ خرخراہٹ کی آواز سنائی دے یا دیکھنے میں ایسا محسوس ہو کہ بچے کو سانس میں تکلیف ہے یا سانس لینے پر چھاتی اور پیٹ کے درمیان گڑھا پڑ رہا ہو تو یہ یماری کی علامات ہیں، اسی طرح سانس روک لینے کا وقفہ اگر ۱۰ اسیکنڈ سے زیادہ ہو، یہ کیفیت زیادہ تر وقت سے پہلے پیدا ہونے والے بچوں میں دیکھنے میں آتی ہے یہ بھی تشویش کی بات ہے۔ سانس روک لینے والے بچے کو اگر جھوڑا ہلایا جائے وہ عموماً سانس لینا شروع کر دیتا ہے لیکن اگر معاملہ شدید نوعیت کا ہو تو پھر ہلانے سے بھی کام نہیں بنتا، صحیح طریقہ یہ ہے کہ ایسے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جا کر اس کا معائنہ کرایا جائے اور پھر اس کے مشورے پر عمل بھی کیا جائے۔

ق

پہلے ایک دو دن میں بچے کے معدے میں موجود مادے جو کئی ماہ سے وہاں موجود تھے۔ ان کی وجہ سے بچے قے کر سکتا ہے اگرچہ ایسا بہت کم ہوتا ہے۔ اپنی ضرورت سے زیادہ دودھ پی کر فالت تو دودھ منہ سے نکال دینے کا عمل بھی چند دن بعد شروع ہو جاتا ہے، بعض اوقات چھوٹے بچے کی خوارک کی نالی کا نچلا حصہ قدرے کمزور ہونے کی وجہ سے خوارک معدے میں جانے کے واپس اسی نالی میں آ جاتی ہے اور قے کی صورت میں منہ سے نکل سکتی ہے۔

چھوٹے بچوں میں دودھ اللئے کی سب سے بڑی وجہ ضرورت سے زیادہ دودھ پی لیما یا دودھ پلانے کے بعد ڈکار دلانے کا طریقہ ٹھیک نہ ہونا ہے۔ اگر قے کی شکل میں دودھ ہر مرتبہ بہت زیادہ مقدار میں نہ ہو اور بچے کا وزن مناسب مقدار میں بڑھ رہا تو پریشان ہونے کی کوئی بات نہیں لیکن اگر ابتدائی دنوں میں مسلسل قے ہو یا قے کی مقدار ہر مرتبہ بہت زیادہ ہو اور بچے کمزور دکھائی دینے لگے یا اس کے پیٹ میں پہلے ہی ابھار نظر آئے تو بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے جانے اس تکلیف کا علاج کرانے کی ضرورت ہے۔

دودھ نہ پینا

ایک نارمل بچہ پیدائش کے پہلے گھنٹے میں ہی دودھ پینے کے لئے تیار ہوتا ہے اور دو گھنٹے کے اندر اندر اسے ماں کا دودھ پلانا شروع کر دینا چاہیے ہر صورت

میں۔

بعض بچوں کو ابتدائی دنوں میں ناک بند ہونے سے دودھ پینے میں خاصی دشواری ہوتی ہے اس لئے کہ منہ سے دودھ پینے کے دوران وہ صرف ناک سے سانس لے سکتے ہیں اور ناک بند ہونے پر سانس نہیں آتا تو دودھ پینا چھوڑ کر روند لگ جاتا ہے، نمکین پانی کے ایک دوقطرے ناک میں دو نوں طرف سے پکانے سے بچے کی ناک کھل جاتی ہے اور دودھ پینے میں آسانی محسوس کرنے لگتا ہے۔ شدید بیماری کی شکل میں بھی بچے دودھ نہیں پی سکتے یا دودھ پینا چھوڑ دیتے ہیں انہیں دودھ پلانے کی کوشش بھی کی جائے تو بھی ان کے ہونٹوں اور زبان میں اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی کہ وہ دودھ پی سکیں یہ علامت چھوٹے بچوں کی کئی بیماریوں میں موجود ہو سکتی ہے اور جن میں ہر ایک خطر ناک ہے، ایسے بچے کافی الفور معائنہ اور علاج ضروری ہے۔

----- انتہام -----